

MICHAEL KORS ACCESS

Quick Start Guide

MODEL: DW7M1



For detailed information, visit: www.michaelkors.com/access/support

Hurtig starthjælp

For yderligere oplysninger se: www.michaelkors.com/access/support

Aan de slag

Voor gedetailleerde informatie ga naar: www.michaelkors.com/access/support

Snabbstartsguide

För detaljerad information kan du besöka: www.michaelkors.com/access/support

Hurtigstartveiledning

For detaljert informasjon, gå til: www.michaelkors.com/access/support

Schnellanleitung

Für weitere Informationen, besuchen Sie: www.michaelkors.com/access/support

Guide de démarrage rapide

Pour des informations détaillées, rendez-vous sur : www.michaelkors.com/access/support

Guida rapida

Per informazioni dettagliate, visitare: www.michaelkors.com/access/support

Guia de Início Rápido

Para informação detalhada, visite: www.michaelkors.com/access/support

Guía de inicio rápido

Para más información, visite: www.michaelkors.com/access/support

Skrócona instrukcja obsługi

Szczególne informacje można znaleźć na stronie: www.michaelkors.com/access/support

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Daha fazla bilgi için, şu sayfaya gidin: www.michaelkors.com/access/support

دليل التشغيل السريع

www.michaelkors.com/access/support: لمعلومات مفصلة، يرجى زيارة:

Panduan Ringkas

Untuk informasi terperinci, kunjungi: www.michaelkors.com/access/support

クイックスタートガイド

詳細情報へのアクセス: www.michaelkors.com/access/support

快速入门指南

欲了解详细信息，请访问: www.michaelkors.com/access/support

快速入門指南

如需了解詳細信息，請訪問: www.michaelkors.com/access/support

Quick Start Guide

자세한 정보를 원하시면, 방문하십시오: www.michaelkors.com/access/support

คู่มือเริ่มต้นการใช้งานด่วน

สำหรับข้อมูลโดยละเอียด เยี่ยมชม: www.michaelkors.com/access/support

Rychlý návod

Podrobné informace naleznete na adrese: www.michaelkors.com/access/support

Hướng dẫn Khởi động Nhanh

Để biết thông tin chi tiết, hãy ghé thăm: www.michaelkors.com/access/support

Краткое руководство по началу работы

Для получения подробной информации посетите: www.michaelkors.com/access/support

STEP 1: CHARGE

Connect your watch to the charger. When your watch is charged, press the button to turn it on.

WARNING: To avoid damage to your watch, only use with included charger. Do not use a USB hub, USB splitter, USB y-cable, battery pack or other peripheral device to charge.

TRIN 1: OPLADNING
Forbind dit ur til opladeren. Når dit ur er opladet, trykker du på knappen for at tænde det.

ADVARSEL: Anvend kun sammen med inkluderede oplader for at undgå skade på dit ur. Anvend ikke en USB-hub, USB-splitter, USB y-kabel, batteripakke eller andet perifert udstyr til at oplade.

STAP 1: OPLADEN
Slut uw horloge aan op de oplader. Wanneer uw horloge is opgeladen, drukt u op de knop om het in te schakelen.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen de meegeleverde lader om schade aan uw horloge te voorkomen. Gebruik geen USB-hub, USB-splitter, USB Y-kabel, batterijpakket of andere randapparatuur om het horloge op te laden.

STEG 1: LADDA
Anslut din klocka till laddaren. När din klocka är laddad, tryck på knappen för att slå på den. Placera klockan på laddaren.


WARNING: Använd endast den medföljande laddaren för att undvika skador på klockan. Använd inte en USB-hub, USB-delare, USB-y-kabel, ett batteripaket eller annan kringutrustning för att ladda.

TRINN 1: LADING
Koble klokken til laderen. Når klokken er ladet, trykker du på knappen for å slå den på.

ADVARSEL: For å unngå skade på klokken, bruk kun tilhørende lader. Ikke bruk en USB-hub, USB-splitter, USB-y-kabel, batteripakke eller andre eksterne enheter for å lade.

SCHRITT 1: AUFLADEN
Verbinden Sie Ihre Uhr mit dem Ladegerät. Wenn Ihre Uhr aufgeladen ist, drücken Sie auf die Taste, um sie einzuschalten.

ACHTUNG: Um Schäden an Ihrer Uhr zu vermeiden, verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Nutze zum Aufladen weder ein USB-Hub noch einen USB-Splitter oder ein USB-Y-Kabel, einen Akku oder sonstige Peripheriegeräte.



ÉTAPE 1 : CHARGEMENT

Connectez votre montre au chargeur. Lorsque votre montre est chargée, appuyez sur le bouton pour l'allumer.

ATTENTION : pour éviter d'endommager votre montre, utilisez uniquement le chargeur inclus. N'utilisez pas d'hub USB, de répartiteur USB, de câble USB en Y, de bloc batterie ou d'autre périphérique pour charger.

INPUT:
5V === 0.5A

PUNTO 1: RICARICA

Collega il tuo orologio ad un caricatore. Quando l'orologio è carico, premi il tasto per accenderlo.

ATTENZIONE: onde evitare danni all'orologio, usare soltanto il caricatore in dotazione. Non usare un hub USB, uno splitter USB, un cavo USB a "Y", un battery pack o altri dispositivi periferici per caricare il dispositivo.

INPUT:
5V === 0.5A

PASSO 1: CARREGAR

Ligue o seu relógio ao carregador. Quando o seu relógio estiver carregado, carregue no botão para ligá-lo.

AAVISO: Para evitar danificar o seu relógio, utilize apenas o carregador incluído. Não use um concentrador USB, divisor USB, cabo Y USB, conjunto de baterias ou outro dispositivo periférico para carregar.

INPUT:
5V === 0.5A

PASO 1: CARGA

Conecte el reloj al cargador. Cuando el reloj esté cargado, presione el botón para encenderlo.

ADVERTENCIA: Para prevenir daños en su reloj, utilice únicamente el cargador que se proporciona. No utilice un concentrador USB, un distribuidor USB, un cable en "y" USB, una batería portátil u otros dispositivos periféricos para cargar.

INPUT:
5V === 0.5A

KROK 1 : ŁADOWANIE

Podłącz zegarek do ładowarki. Po naładowaniu akumulatora zegarka naciśnij przycisk włączający urządzenie.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć uszkodzenia zegarka, należy używać wyłącznie dołączonej ładowarki. Do ładowania nie należy używać koncentratora ani rozdzielacza USB, kabla USB typu Y, akumulatorów wieloogniowych ani innych urządzeń peryferyjnych.

INPUT:
5V === 0.5A

1. ADIM : ŞARJ

Saatinizi şarj cihazına bağlayın. Şarj olduğunda saatinizi açmak için düğmeye basın.

UYARI: Saatimize zarar gelmesini önlemek için yalnızca içerikteki şarj cihazını kullanın. Cihazınızı şarj etmek için USB çoğaltıcı, USB bölücü, USB y-kablosu, pil takımı ya da diğer çevre birimlerini kullanmayın.

INPUT:
5V === 0.5A

LANGKAH 1: ISI DAYA

Hubungkan jam tangan Anda ke pengisi daya. Ketika jam tangan sedang diisi daya, tekan tombol untuk menghidupkannya.

PERINGATAN: Untuk menghindari kerusakan pada jam tangan Anda, hanya gunakan pengisi baterai yang disertakan. Mohon untuk tidak menggunakan hub USB, splitter USB, kabel y USB, baterai, atau perangkat tambahan lainnya untuk mengisi daya.

INPUT:
5V === 0.5A

ステップ 1: 充電

ウォッチを充電器に接続してください。ウォッチの充電が完了したら、ボタンを押して電源をオンにしてください。

警告: 時計への損傷を避けるため、同梱の充電器のみご使用ください。USBハブ、USBスプリッター、USB Yケーブル、電池パックやその他の周辺機器を充電に使用しないでください。

INPUT:
5V === 0.5A

الخطوة 1: الشحن

قم بتوصيل ساعتك إلى الشاحن. عندما يتم شحن ساعتك، قم بالضغط على الزر لتشغيلها. لا تستخدم موزع USB أو مقسم USB أو وصلة USB Y-CABLE أو شاحن محمول أو أي جهاز طرفي آخر للشحن.

INPUT:
5V === 0.5A

第1步: 充电

将手表连接到充电器。手表充电完毕后，按下按钮将其开启。

警告: 为了避免损害您的手表，请使用原装充电器。不要使用USB集线器、USB分配器、USB y-cabl多功能数据线、电池组或其他外围设备充电。

INPUT:
5V \equiv 0.5A

第1步: 充電

將手錶連接到充電器。手錶充電完畢後，按下按鈕將其開啟。

警告: 為了避免損壞您的手錶，只能使用原裝充電器。不要使用USB集線器、USB分配器、USB y-cable多功能線、電池組或其他週邊裝置充電。

INPUT:
5V \equiv 0.5A

1 단계: 충전

귀하의 시계를 충전기에 연결하십시오. 귀하의 시계가 충전되면, 시계가 켜지도록 버튼을 누르십시오.

경고: 시계 손상을 방지하려면, 반드시 동봉된 충전기만을 사용해야 합니다. USB 허브나 USB 분배기, USB Y 케이블, 배터리 팩, 다른 주변 기기를 사용하여 충전하지 마십시오.

INPUT:
5V \equiv 0.5A

ขั้นตอนที่ 1: ชาร์จ

เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณไปยังตัวชาร์จ เมื่อนาฬิกาของคุณชาร์จอยู่ กดปุ่มเพื่อเปิดมัน

คำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อนาฬิกาของคุณ โปรดใช้ตัวชาร์จที่รวมมาด้วยเท่านั้น อย่าใช้ข้อ USB ตัวแบ่ง USB สายเคเบิล USB แบบตัว Y ชุดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เพื่อชาร์จ

INPUT:
5V \equiv 0.5A

KROK 1: NABĚJENÍ A ZAPNUTÍ

Připojte hodinky k nabíječce. Když jsou hodinky nabitě, zapněte je stisknutím tlačítka.

VAROVÁNÍ: Chcete-li předejít poškození hodinek, používejte pouze nabíječku, která je součástí balení. Kéť nůl držte hůl vůči sáč. Kři držte hůl držte sáč, hůl a nůl držte hůl vůči sáč.

INPUT:
5V \equiv 0.5A

BƯỚC 1: SẠC VÀ BẬT NGUỒN

Kết nối đồng hồ với sạc. Khi đồng hồ đã được sạc, hãy ấn nút để bật nguồn.

CẢNH BÁO: Để tránh làm hỏng đồng hồ, chỉ sử dụng sạc đi kèm. Không dùng cổng USB, bộ chia USB, cáp USB chữ Y, bộ pin hoặc thiết bị ngoại vi khác để sạc.

INPUT:
5V \equiv 0.5A

ШАГ 1: ЗАРЯДКА И ВКЛЮЧЕНИЕ

Подсоедините часы к зарядному устройству. После того как часы зарядятся, нажмите кнопку, чтобы включить их.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание повреждения часов используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте. Не используйте для зарядки USB-концентратор, USB-сплиттер, USB-разветвитель, резервный аккумулятор или другое периферийное устройство.

INPUT:
5V \equiv 0.5A

STEP 2: DOWNLOAD AND PAIR

On your phone, download the Wear OS by Google app from the App StoreSM or Google PlayTM Store. Open the Wear OS by Google app on your phone and follow the prompts to pair your watch using BluetoothTM connection. Once paired, your watch screen will walk you through setup procedures.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Wear OS by Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

For users in China: Download and install the Chinese version of the WearOS by GoogleTM App from any major app market.

TRIN 2: KOM I GANG

På din telefon skal du downloade app'en Wear OS by Google fra App StoreSM eller Google PlayTM Store. Åben app'en Wear OS by Google på din telefon og følg instrukserne for at danne par med dit ur via en forbindelse med BluetoothTM. Efter paring vil din urskærm føre dig igennem opsætningsprocedurerne.

Apple and Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registrerede i USA og andre lande. App Store er et varemærke tilhørende Apple Inc. Wear OS by Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

STAP 2: BEGINNEN

Download de Wear OS by Google app op uw telefoon uit de App StoreSM of uit de Google PlayTM Store. Open de Wear OS by Google app op uw telefoon en volg de aanwijzingen voor het koppelen van uw horloge met BluetoothTM-verbinding. Wanneer de apparaten zijn gekoppeld zal het scherm van uw horloge u verder door het installatieproces leiden.

Apple en het Apples logo typ är varumärken som tillhör Apple Inc., gedefoneerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Wear OS by Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

STEG 2: KOM IGÅNG


På din telefon, ladda ner Wear OS by Google-app en från App StoreSM eller Google PlayTM Store. Öppna Android WearTM-appen på din telefon och följ uppmaningarna för att para ihop din klocka med hjälp av BluetoothTM-anslutning. När den är ihopparad kommer din klocka att leda dig genom inställningsrutinerna.

Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Wear OS by Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

TRINN 2: KOM I GANG

På telefonen, last ned Wear OS by Google-app fra App StoreSM eller Google PlayTM Store. Åpne Android WearTM-appen på telefonen din og følg instruksjonene for å pare klokken via BluetoothTM-tilkobling. Når parett, vil klokkeskjermen lede deg gjennom oppsettsprosedyrene.

Apple and Apple-logoen er varemærker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et varemerke som tilhører Apple Inc. Wear OS by Google og Google Play er varemærker som tilhører Google LLC.



MICHAEL KORS ACCESS



Wear OS by Google

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

SCHRITT 2: LEGEN SIE LOS

Laden Sie die Wear OS by Google-App über den App StoreSM oder Google Play™ Store auf Ihrem Telefon herunter. Öffnen Sie die Android Wear™-App auf Ihrem Telefon und folgen Sie den Aufforderungen, um Ihre Uhr mittels Bluetooth™-Verbindung zu koppeln. Sobald Sie sie gekoppelt haben, erscheint das Enrichungsverfahren Schritt für Schritt auf Ihrem Uhrenbildschirm. *Apple und das Apple Logo sind Handelsmarken von Apple, Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple, Inc. Wear OS by Google und das Google Play sind Handelsmarken von Google, LLC.*

ÉTAPE 2: DÉMARRAGE

Sur votre téléphone, téléchargez l'application Wear OS by Google dans l'App StoreSM ou Google Play™. Ouvrez l'application Android Wear™ sur votre téléphone et suivez les instructions pour coupler votre montre à l'aide de la connexion Bluetooth™. Une fois couplé, vous écrirez de veille vous guidera à travers les procédures de configuration. *Apple et le logo Apple sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de services d'Apple Inc. Wear OS by Google et Google Play sont des marques déposées de Google LLC.*

PUNTO 2: INTRODUZIONE

Sul tuo telefono, scarica l'app Wear OS by Google da App StoreSM o Google Play™ Store. Apri l'app Wear OS by Google sul tuo telefono e segui le istruzioni per accoppiare il tuo orologio usando la connessione Bluetooth™. Una volta eseguito l'accoppiamento, segui le procedure di configurazione presenti sullo schermo del tuo telefono. *Apple e il logo Apple sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Wear OS by Google e Google Play sono marchi registrati di Google LLC.*

PASSO 2: COMEÇAR

No seu telefone, transfira a app Wear OS by Google a partir da App StoreSM ou da Google Play™ Store. Abra a app Wear OS by Google no seu telefone e siga as instruções para emparelhar o seu relógio através da ligação Bluetooth™. Depois de emparelhado, o ecrã do seu relógio irá orientá-lo nos procedimentos de configuração. *Apple e o logótipo Apple são marcas registadas de Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. App Store é uma marca de serviço de Apple Inc. Wear OS by Google e Google Play são marcas registadas de Google LLC.*

PASSO 2: EMPLEZAR

Descargue la aplicación Wear OS by Google en la App StoreSM o Google Play™ en el teléfono. Abra la aplicación Wear OS by Google en el teléfono y siga las instrucciones para sincronizar el reloj mediante conexión Bluetooth™. Una vez vinculado, el reloj de la pantalla le guiará por los procedimientos de configuración. *Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Wear OS by Google y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.*

KROK 2: WPROWADZENIE

Pobierz na swoim telefonie aplikację Wear OS by Google ze sklepu App StoreSM lub Google Play™. Uruchom aplikację Wear OS by Google na swoim telefonie i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sparować zegarek za pomocą połączenia Bluetooth™. Po sparowaniu ekran zegarka przeprowadzi Cię przez kolejne etapy konfiguracji. *Apple oraz logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Wear OS by Google oraz Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.*

2.ADIM: BAŞLARKEN

Telefonunuzdan App StoreSM ve Google Play™ Mağazasından Wear OS by Google indirin. Telefonunuzda Wear OS by Google uygulamasını açın ve Bluetooth™ bağlantısını kullanarak kullanarak saatinizi eşleştirmek için bilgi komutları takip edin. Saatinizi eşleştirdiğinizde, saat ekranınız size kurulum işlemlerinde yardımcı olacaktır. *Apple ve Apple logosu Apple Inc.'in ticari markalarıdır ve bu markalar ABD'de ve diğer ülkelerde kayıtlıdır. App Store Apple Inc.'in hizmet markasıdır. Wear OS by Google ve Google Play in ticari markalarıdır Google LLC.*

الخطوة 2: استعد للبدء

على هاتفك، قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Wear OS by Google من متجر التطبيقات App StoreSM أو جوجل بلاي Google Play افتح تطبيق Wear OS by Google على هاتفك، وعندما يتم الإقران ستدلك ساعتك على إجراءات الإعداد. *Apple وشعار Apple هي علامات تجارية تابعة لشركة Apple Inc. وهي شركة مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. App Store هو علامة خدمة تابعة لشركة Apple Inc. Google LLC كلها علامات تجارية خاصة بشركة Google Plays وWear OS by Google*

LANGKAH 2: MEMULAI

Di ponsel Anda, unduh aplikasi Wear OS by Google dari App StoreSM atau Google Play™ Store. Buka aplikasi Wear OS by Google di ponsel Anda dan ikuti petunjuk singkatnya untuk memasangkan jam tangan Anda menggunakan koneksi Bluetooth™. Ketika sudah terpasangkan, layar jam tangan Anda akan membawa Anda ke prosedur pengatur-nagaran. *Apple dan logo Apple adalah merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara-negara lain. App Store adalah merek layanan dari Apple Inc. Wear OS by Google dan Google Play adalah merek dagang dari Google LLC.*

ステップ 2: 開始

スマートフォンで、App StoreSMまたはGoogle Play™ストアからWear OS by Googleアプリをダウンロードしてください。スマートフォンでWear OS by Googleアプリを開き、ダイアログに従ってBluetooth™接続を使ってウォッチのペア設定を行ってください。ペア設定が完了したら、ウォッチ画面の指示に従ってセットアップ手続きを完了します。 *AppleおよびAppleロゴは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Wear OS by GoogleおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。*

第2步：开始

从App StoreSM或Google Play™商店下载Wear OS by Google™应用程序到手机中。

对于中国用户：

1. 打开手机，点击屏幕开始，向上滑动屏幕确认相关条款。
2. 使用手机扫描手表屏幕二维码，下载并安装Android Wear™中国版app。
3. 打开Wear OS by Google™中国版app，跟随提示完成手机和手表的配对、同步。

Apple与Apple的标识是苹果公司在美国以及其他国家注册的商标。Apple Store是苹果公司的一个服务商标。Wear OS by Google和Google Play是Google LLC的商标。

第2步：開始

在從App StoreSM或Google Play™商店下載Wear OS by Google™應用程式到手機中。在手機上開啟Wear OS by Google™應用程式，然後按照提示，透過Bluetooth™連接將手錶與手機配對。配對完成後，您的手錶螢幕會引導您逐步完成設定過程。 *Apple和Apple標誌是蘋果公司在美國以及其他國家註冊的商標。App Store（應用商店）是蘋果公司的服務標誌。Wear OS by Google和Google Play是Google LLC的商標。*

2 단계: 시작하기

귀하의 앱 스토어SM 또는 구글 플레이™에서 안드로이드 웨어™ 앱을 다운로드하십시오. 귀하의 폰에서 안드로이드 웨어™ 앱을 열고 블루투스™ 연결을 사용하여 시계의 페어링을 위해 메시지의 지침을 따르십시오. 일단 페어링되면, 귀하의 시계 화면이 설정 절차를 따라 작동하게 됩니다. *Apple과 Apple 로고는 미국 및 기타 국가들에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다. Wear OS by Google 및 Google Pay Google LLC의 상표입니다.*

ขั้นตอนที่ 2: เริ่มต้น

บนโทรศัพท์ของคุณ ดาวน์โหลด Wear OS by Google™ จาก App StoreSM หรือ Google Play™ Store เปิด Wear OS by Google™ บนโทรศัพท์ของคุณและทำตามการแจ้งเตือนเพื่อจับคู่การเชื่อมของนาฬิกาใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth™ เมื่อจับคู่แล้ว หน้าจอนาฬิกาของคุณจะพาคุณผ่านขั้นตอนการตั้งค่า *Apple และ โลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. Wear OS by Google และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.*

ШАГ 2:ЗАГРУЗКА И СОПРЯЖЕНИЕ

Загрузите на смартфон приложение Wear OS by Google™ из App Store™ или Google Play™. Откройте приложение Wear OS by Google™ на смартфоне и следуйте подсказкам по сопряжению часов по каналу Bluetooth™. По окончании сопряжения следуйте указаниям на экране часов для выполнения процедуры настройки.

Название Apple и логотип Apple являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. Wear OS by Google, Google Play и другие марки являются торговыми марками компании Google LLC.

KROK 2: STAŽENÍ A PÁROVÁNÍ

Stahněte si do telefonu aplikaci Wear OS by Google™ z obchodu App Store™ nebo Google Play™. Spusťte v telefonu aplikaci Wear OS by Google™ a postupujte podle pokynů pro spárování hodinek pomocí připojení Bluetooth™. Po spárování vás obrazovka hodinek provede nastavením. *Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Wear OS by Google a Google Play za muut merkit ovat Google LLC. -yhitiön tavaramerkkejä.*

BƯỚC 2: TẢI VỀ VÀ KẾT NỐI

Trên điện thoại, hãy tải về ứng dụng Wear OS by Google™ từ App Store™ từ App Store™ hoặc Google Play™ Store. Mở ứng dụng Wear OS by Google™ trên điện thoại và làm theo gọi ý để kết nối đồng hồ của bạn sử dụng qua Bluetooth™.
Khi đã kết nối, màn hình đồng hồ của bạn sẽ hướng dẫn bạn cụ thể các quy trình cài đặt. Wear OS by Google và Google Play là những nhãn hiệu của Tập đoàn Google LLC.

Did your smartwatch come with an additional buckle?

Purchase a new strap and attach the complimentary buckle per the instructions below:

Fulgte der et ekstra spænde med dit smartwatch?

Køb en ny rem og fastgør det ekstra spænde til dette, som vist nedenfor:

Is uw horloge geleverd met een extra sluiting?

U kunt een nieuw horlogebandje kopen en de extra sluiting monteren zoals hieronder aangegeven:

Kom din smartwatch med ett extra spänne?

Köp en ny rem och fäst gratisspännat vid det enligt anvisningarna nedan:

Kom smartklokken med en ekstra spenne?

Kjøp en ny stroppe og fest den medfølgende spennen ifølge anvisningene under:

Wurde Ihre Uhr mit einer Ersatzschnalle geliefert?

Kaufen Sie ein neues Armband und bringen die kostenlose Schnalle gemäß der unten beschriebenen Anleitung an:

Avez-vous reçu une boucle supplémentaire avec votre smartwatch?

Achetez un nouveau bracelet et attachez-y la boucle supplémentaire selon les instructions ci-dessous:

Il tuo smartwatch è dotato di una fibbia aggiuntiva?

Acquista un nuovo cinturino e colloca la fibbia in omaggio seguendo le istruzioni di seguito:

O seu smartwatch veio com uma fivela adicional?

Compre uma correia nova e coloque a fivela adicional conforme as instruções abaixo:

¿Su reloj incluye una hebilla adicional?

Adquiera una nueva correa y ajústela a la hebilla adicional según las siguientes instrucciones:

Czy razem ze swoim smartwatchem dostałeś dodatkową klamrę?

Kup nowy pasek i załóż na niego dodatkową klamrę według poniższych instrukcji:

Akilli saatiniz ek bir tokayla mı geldi?

Yeni bir kays satın alın ve hediye tokayı aşağıdaki talimatlara göre ilştirin:

Apakah jam cerdas Anda dilengkapi dengan gesper tambahan?

Beli tali baru dan ikatkan gesper gratis dengan petunjuk di bawah ini:

スマートウォッチには予備のバックルが付属していますか?

?新しいストラップを購入し、以下の手順に従って付属のバックルを取り付けてください:

您的智能手表是否配有备用带扣?

购买一条新的表带并按照下列提示连接卡扣:

您的智能手錶是否有額外的帶扣?

請買一條新錶帶，並按照下面的說明系上免費贈送的帶扣。

스마트시계를 구매할 때 여분의 버클도 함께 받으셨습니까?

새로운 스트랩을 구매해서 아래 설명에 따라 무료 버클을 부착시키세요:

นาฬิกาอัจฉริยะของคุณมาพร้อมกับบานพับเพิ่มเติมหรือไม่?

ซื้อสายใหม่แล้วติดบานพับเสริมตามคำแนะนำด้านล่าง:

Dostali jste spolu s hodinkami další sponu?


Kupte si nový pásek a připevňte sponu dle níže uvedených pokynů:

Đồng hồ thông minh của bạn có thêm khóa?

Hãy mua một dây mới và gắn khóa bổ sung theo hướng dẫn dưới đây:

В комплект смарт-часов входила дополнительная застежка?

Приобретите новый ремешок и прикрепите дополнительную застежку согласно инструкциям ниже:



هل ساعتك الذكية مزودة بسوار إضافي؟
اشتر سوار جديد وأرفقه في المشبك باتباع الإرشادات التالية:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep these instructions.
- Do not attempt to open, disassemble or tamper with the Product. Substances contained in this product and/or its battery may damage the environment and/or human health if handled and disposed of improperly.
- Do not use the Product in circumstances that could cause a dangerous situation, such as using the Product while operating heavy machinery or driving a moving vehicle in a manner that might cause you to take your eyes off the road or become so absorbed in the activity that your ability to concentrate on the act of driving becomes impaired.
- Do not expose the Product to extremely high or low temperatures, direct sunlight for an extended period of time, or to high water pressure.
- Never allow children to play with the product; the small components may be a choking hazard!
- The Product is not intended for use where the failure of the Product could lead to death, personal injury, or severe environmental damage.
- Maps, directions, and other GPS or navigation data, including data relating to your current location, may be unavailable, inaccurate, or incomplete.
- (If applicable) Do not wear or clean your Product while you are charging it.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Opbevar disse instruktioner.
- Forsøg ikke at åbne, adskille eller modificere Produktet. Stoffer, som findes i produktet og/eller batteriet, kan skade miljøet og/eller menneskers helbred, hvis de ikke håndteres og bortskaffes på passende vis.
- Anvend ikke Produktet under forhold som kunne forårsage en farlig situation, såsom at bruge Produktet mens du betjener tunge maskiner, eller er fører af et køretøj, på en måde som måtte påvirke at du tager øjnene af kørebanen, eller du bliver så opslugt i aktiviteten at din evne til at koncentrere dig om kørslen forringes.
- Udsæt ikke Produktet for ekstremt høje eller lave temperaturer, direkte sollys i længere tid eller for højt vandtryk.
- Giv aldrig børn lov til at lege med Produktet; de små komponenter kan medføre kvælningsfare!
- Det er ikke hensigten at bruge Produktet, hvor fejlfunktion af Produktet kan medføre død, personskade eller alvorlig miljøskade.
- Kort, kørselsvejledninger og andre gps- eller navigationsdata, herunder data om din nuværende position, kan være utilgængelige, usøjagtige eller mangelfulde.
- (Hvis relevant) Bær eller rengør ikke dit Produkt mens du oplader det.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCITIES

- Bewaar deze instructies.
- Probeer het product niet te openen, te demonteren of te veranderen. Stoffen in dit product en/of de batterij kan het milieu en/of de gezondheid schaden indien onjuist behandeld en afgevoerd.
- Gebruik het product niet in gevaarlijke omstandigheden, zoals het gebruik van het product tijdens het bedienen van zware machines of bij het besturen van een bewegend voertuig. Gebruik het product niet op een manier die ertoe kan leiden dat u uw ogen niet op de weg houdt of waarbij u zo geabsorbeerd raakt in de activiteit dat u zich niet langer kunt concentreren op het rijden.
- Stel het Product niet gedurende een lange periode bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, direct zonlicht of aan hoge waterdruk.
- Laat geen kinderen met het product spelen. De kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren!
- Het product is niet bedoeld om te gebruiken in situaties daar waar een tekortkoming aan het product zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige schade aan het milieu.
- Kaarten, routebeschrijvingen en andere GPS- of navigatiegegevens, waaronder gegevens over uw huidige locatie, zijn mogelijk niet beschikbaar, onjuist of onvolledig.
- (Indien van toepassing) Tijdens het opladen kunt u het product niet dragen of reinigen.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Behåll dessa instruktioner.
- Forsök inte att öppna, ta isär eller manipulera produkten. Ämnen som finns i denna produkt och/eller dess batteri kan skada miljön och/eller människors hälsa om de hanteras och avyttras på fel sätt.
- Använd inte produkten under omständigheter som kan skapa en farlig situation, så som att använda produkten medan du använder tunga maskiner eller kör ett fordon i rörelse på ett sätt som kan göra att du tar ögonen från vägen eller blir så upptagen av aktiviteten att din förmåga att koncentrera dig på körandet försämras.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer, direkt solljus under en längre tid eller för högt vattentryck.
- Låt aldrig barn leka med produkten då de små komponenterna kan utgöra en kvävningsrisk!
- Produkten är inte avsedd för användning där fel på produkten kan leda till dödsfall, personskada eller allvarliga miljöskador.

- Kartor, vägbeskrivningar och andra GPS- eller navigationsdata, inklusive uppgifter om din aktuella plats, kan vara otillgängliga, felaktiga eller ofullständiga.
- (Om tillämpligt) Ha inte på dig eller rengör din produkt medan du laddar den.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

- Ta vare på disse anvisningene.
- Ikke forsøk å åpne, demontere eller tukle med produktet. Stoffer som finnes i dette produktet og/eller batteriet kan skade miljøet og/eller menneskers helse hvis det håndteres og avhendes på feil måte.
- Ikke bruk produktet under forhold som kan føre til en farlig situasjon; for eksempel ved bruk av produktet ved drift av tunge maskiner eller mens du kjører et kjøretøy på en måte som kan få deg til å ta øynene av veien eller blitt så opplukt i aktiviteten at evnen til å konsentrere seg kjøringen blir svekket.
- Ikke utsett produktet for ekstremt høye eller lave temperaturer, direkte sollys over lengre tid eller høyt vanntrykk.
- Ikke la barn leke med produktet; de små komponentene kan representere en kvælningsfare!
- Produktet er ikke beregnet for bruk hvor feil med produktet kan føre til død, skader eller alvorlige miljøødeleggelser.
- Kart, veibeskrivelser og andre GPS- eller navigasjonsdata, inkludert data knyttet til din nåværende posisjon, kan være utilgjengelige, unøyaktige eller ufullstendige.
- (Hvis aktuelt) Ikke bruk eller rens produktet mens det lades.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen, zu zerlegen oder es zu manipulieren. In diesem Produkt enthaltene Substanzen und/oder seine Batterien können die Umwelt und/oder die menschliche Gesundheit schädigen, wenn sie unsachgemäß behandelt oder entsorgt werden.
- Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn dies zu einer gefährlichen Situation führen könnte, wie z. B. die Nutzung des Produktes während der Bedienung schwerer Maschinen oder dem Fahren von beweglichen Fahrzeugen in einer Weise, in der Sie Ihre Augen von der Straße abwenden oder so in einer Aktivität versunken sind, dass Ihre Konzentrationsfähigkeit oder Ihre Fahrtüchtigkeit eingeschränkt wird.
- Setzen Sie das Produkt keinem extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht oder keinem zu hohen Wasserdruck aus.
- Erlauben Sie Kindern niemals, mit dem Produkt zu spielen; die kleinen Teile können ein Erstickungsrisiko darstellen.
- Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung in Situationen geeignet, in denen die Fehlfunktion des Produktes zu Tod, Personenschäden oder gravierenden Umweltschädigungen führen könnte.
- Karten-, Wegbeschreibungs- und andere GPS- oder Navigationsdaten, einschließlich Daten im Zusammenhang mit Ihrem aktuellen Standort, könnten nicht verfügbar, ungenau oder unvollständig sein.
- (Falls zutreffend) Reinigen Sie Ihr Produkt nicht, während Sie es aufladen.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Conservez ces instructions.
- Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de modifier le Produit. Les substances contenues dans ce produit et/ou sa batterie pourraient porter atteinte à l'environnement et/ou à la santé humaine en cas de manipulation ou d'élimination non conformes aux prescriptions.
- N'utilisez pas le Produit dans des circonstances pouvant créer une situation dangereuse, comme utiliser le Produit en même temps que des machines lourdes ou en conduisant un véhicule en mouvement de telle manière que vous seriez amené à quitter la route des yeux ou à être tellement absorbé par l'activité que votre capacité à vous concentrer sur votre conduite en serait altérée.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée ou à une forte pression d'eau.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec le produit ; ses petites pièces présentent un risque d'étouffement !
- Le Produit n'est pas destiné à une utilisation là où le Produit pourrait entraîner la mort, des blessures corporelles ou porter gravement atteinte à l'environnement.
- Les cartes, les directions et les autres données GPS ou de navigation, y compris les données relatives à votre position actuelle, peuvent être indisponibles, inexactes ou incomplètes.
- (Le cas échéant) Ne portez pas et ne lavez pas le Produit durant son chargement.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

- Conservare le presenti istruzioni.
- Evitare di aprire, smontare o alterare il prodotto. Le sostanze contenute in questo prodotto e/o le pile potrebbero danneggiare l'ambiente e/o la salute se manipolate e disperse in modo incorretto.

- Non usare il Prodotto in circostanze che potrebbero causare una situazione pericolosa, come usarlo durante il funzionamento di macchinari pesanti o alla guida di un veicolo in movimento in modo che distragga l'utente dalla guida o che sia assorbito nell'attività tale da compromettere la capacità di concentrarsi alla guida.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse, alla luce diretta del sole per un periodo di tempo elevato, o a un'elevata pressione dell'acqua.
- Non consentire mai ai bambini di giocare con il prodotto, in quanto i piccoli componenti che lo compongono possono causare pericolo di soffocamento!
- Il Prodotto non è destinato ad usi, in cui il mancato funzionamento potrebbe causare morte, lesioni personali o gravi danni all'ambiente.
- Le mappe, le indicazioni e gli altri dati GPS o di navigazione, fra cui i dati relativi alla tua attuale posizione, potrebbero essere non disponibili, imprecisi o incompleti.
- (Se applicabile) non indossare o pulire il Prodotto durante la ricarica.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Guarde estas instruções.
- Não tente abrir, desmontar ou adulterar o Produto. As substâncias contidas neste produto e/ou a sua bateria poderão danificar o ambiente e/ou a saúde pública se manuseados ou eliminados indevidamente.
- Não utilize o Produto em circunstâncias que possam causar uma situação perigosa, tal como usar o Produto enquanto manobra máquinas pesadas ou enquanto conduz um veículo em movimento que o possa levar a desviar os seus olhos da estrada ou a tornar-se tão absorvido pela atividade que a sua capacidade de se concentrar na ação de conduzir fique comprometida.
- Não exponha o Produto a temperaturas extremamente altas ou baixas, à luz solar direta por um longo período de tempo ou a alta pressão da água.
- Nunca permita que crianças brinquem com o produto: os componentes pequenos poderão representar perigo de asfixial
- O Produto não tem por objetivo ser utilizado quando uma falha do Produto possa levar à morte, a lesão pessoal ou a graves danos ambientais.
- Mapas, direções e outros dados GPS ou de navegação, incluindo dados relativos à sua localização atual, poderão não estar disponíveis, ser imprecisos ou estar incompletos.
- (Se aplicável) Não utilize ou limpe o seu Produto enquanto o estiver a carregar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Conserve estas instrucciones.
- No intente abrir, desmontar o manipular el Producto. Las sustancias contenidas en este Producto y/o su batería pueden dañar el medio ambiente y/o la salud de las personas si se utilizan y desechan de forma indebida.
- No utilice el Producto en circunstancias que puedan provocar peligro, como usar el Producto al manejar maquinaria pesada o conducir un vehículo en movimiento, de forma que le haga apartar la vista de la carretera o que le haga estar tan concentrado en la actividad que la capacidad para concentrarse en el acto de conducir sea deficiente.
- No exponga el Producto a temperaturas extremas, a la luz solar directa durante un largo periodo o a una fuerte presión de agua.
- ¡Nunca permita que los niños jueguen con el Producto; las piezas pequeñas pueden provocar asfixia!
- El Producto no debe utilizarse en situaciones donde una avería del Producto pueda provocar la muerte, daños personales, o daños graves al medioambiente.
- Los mapas, las direcciones y otros datos del GPS o la navegación, incluyendo la información relacionada con su ubicación actual, podrían no estar disponibles, ser imprecisos o estar incompletos.
- (En caso de ser aplicable) No lleve puesto el Producto ni lo limpie mientras se esté cargando.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

- Zachowaj tę instrukcję.
- Nie próbuj otwierać, demontować lub manipulować przy Produkcie. Substancje zawarte w tym produkcie i/lub jego baterii mogą spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i dla środowiska, jeżeli będą użytkowane i usuwane w niewłaściwy sposób.
- Nie należy używać produktu w okolicznościach, które mogłyby prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak korzystanie z Produktem podczas pracy przy ciężkim sprzęcie lub podczas prowadzenia pojazdu w sposób, który może doprowadzić do odwrócenia przez Ciebie wzroku od drogi lub skupienia się na aktywności związanej z produktem i spowodować, że Twoja koncentracja na akcie jazdy zostanie osłabiona.
- Nie wystawiaj Produkту na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur, przez dłuższy czas na działanie światła słonecznego oraz na działanie wody pod ciśnieniem.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się Produktem; małe części mogą być przyczyną zadławienia!
- Produkt nie jest przeznaczony do używania, w przypadku gdy awaria Produkту może prowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub poważnych szkód środowiskowych.

- Mapy, kierunki i inne dane GPS lub nawigacji, w tym dane dotyczące obecnego położenia, mogą być niedostępne, niedokładne lub niekompletne.
- (Jeśli dotyczy) Nie zakładaj Produkту ani nie czyść go, gdy się ładuje.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Bu talimatları saklayın.
- Ürünü açmaya, sökmeye ya da kurcalamaya çalışmayın. Bu ürünün ve/veya bataryasının içinde bulunan maddeler elle tutulacak ya da uygun olmayan bir şekilde atılacak olursa çevreye ve/veya insan sağlığına zarar verebilir.
- Ürünü, iş makinesi kullanırken ya da hareket halinde bir araç kullanırken gözünüzü yoldan ayırmanıza yol açacak veya araç kullanma eylemini engelleyecek şekilde konsantrasyonunuzu bozmanız neden olabilecek koşullarda kullanmayın.
- Ürünü uzun süre boyunca aşırı yüksek ısıya doğrudan güneş ışığına veya yüksek su basıncına maruz bırakmayın.
- Çocukların ürünü oynamasına hiçbir zaman izin vermeyin; küçük parçalar boğulma tehlikesine yol açabilir!
- Ürün, Ürünün arızasının ölüme, yaralanmaya ya da ciddi çevresel zarara yol açabileceği durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Mevcut konumunuzu ilgili veriler de dahil olmak üzere haritalar, yönler ve diğer GPS veya navigasyon verileri mevcut, doğru veya tam olmayabilir. (Eğer mevcutsa) Ürününüzü onu şarj ederken takmayın ya da temizlemeyin.

أقرأ هذه الإرشادات.

احفظ هذه الإرشادات.
لا تحاول فتح أو تفكيك أو التعديل مع هذا المنتج. المواد التي يحتويها هذا المنتج وأثر البطارية الخاصة به قد تؤدي إلى أضرار بيئية وأثر على صحة الإنسان إذا تم التعامل معها والتخلص منها بطريقة غير صحيحة.
لا تستخدم المنتج في الظروف التي يمكن أن تسبب أضراراً خطيرة. مثل تشغيل الآلات الثقيلة أو قيادة المركبات المتحركة بطريقة قد تؤدي إلى إزاحة الطريق أو أن تصح مستقراً بينما في التركيز الذي يبعد عن سيطرتك على القيادة.
لا تعرض المنتج للحرارة المفرطة أو للضغط عند أو الضغط المتسم المتأثرة لمدة طويلة من الزمن. أو لتفط مياه قوي.
لا تسمح للأطفال أبداً بالعبث بالمنتج حيث أن للكلمات الصغيرة يمكن أن تسبب مشاكل التنفس!
المنتج ليس صمماً للاستخدام إذا كان فشل المنتج قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الشخصية أو ضرر بيئي شديد.
من الممكن أن تكون بيانات العرائط، الإحداثيات، وفعاما من بيانات نظام التوضيح العالمي أو بيانات التنقل. بما في ذلك البيانات المتعلقة بوقتك الحالي غير متوفرة، غير دقيقة أو غير كاملة.
(إن أمكن) لا تردي أو تظف المنتج المعاصر بك أثناء شحنه.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

- Simpanlah petunjuk ini.
- Jangan mencoba untuk membuka, membongkar, atau mengutak-atik Produk. Zat yang terkandung dalam produk ini dan/atau dalam baterainya dapat merusak lingkungan dan/atau kesehatan manusia jika tidak ditangani dan dibuang dengan benar.
- Jangan menggunakan Produk dalam keadaan yang dapat menyebabkan situasi berbahaya, seperti menggunakan Produk sementara mengoperasikan mesin berat atau mengendarai kendaraan yang bergerak dengan cara yang mungkin menyebabkan Anda mengalihkan mata Anda dari jalan atau begitu larut dalam aktivitas tersebut sehingga kemampuan Anda untuk berkonsentrasi pada kegiatan berkendara menjadi terganggu.
- Jangan memaparkan Produk ke suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sinar matahari langsung untuk waktu yang lama, atau ke tekanan air tinggi.
- Jangan pernah membiarkan anak-anak bermain dengan produk; komponen-komponen kecilnya dapat menimbulkan bahaya tersendiri!
- Produk ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan yang bisa mengakibatkan kematian, cedera, atau kerusakan lingkungan yang parah karena kegagalan Produk.
- Data peta, arah, dan navigasi maupun data GPS lainnya, termasuk data yang berkaitan dengan lokasi Anda saat ini, mungkin tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak lengkap.
- (Jika berlaku) Jangan memakai atau membersihkan Produk saat Anda mengisinya.
- Jangan pernah membiarkan anak-anak bermain dengan produk; komponen-komponen kecilnya dapat menimbulkan bahaya tersendiri!
- Produk ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan yang bisa mengakibatkan kematian, cedera, atau kerusakan lingkungan yang parah karena kegagalan Produk.

安全上の重要な注意事項

- これらの注意事項をお守りください。
- 本製品を開けたり、分解または改ざんしないようにしてください。本製品や電池に含まれる物質は、不適切な取り扱いまたは廃棄によって環境を破壊したり、人体に影響を及ぼす恐れがあります。
- 重機操作中や移動車両の運転中に、道路から目を離したり、活動に没頭するあまり運転中の集中力が低下する状況で本製品を使用するなど、危険を招く状況ではご使用にならないでください。
- 本製品は、極端な高温や低温、長時間の直射日光、または高い水圧にさらさないでください。
- 本製品でお子様を遊ばせないようにしてください。小さな部品を飲み込むと、窒息の危険性を引き起こす恐れがあります！
- 本製品が故障している場合は、死亡や身体損傷または環境に深刻な被害を及ぼす恐れがあるため、ご使用にならないでください。

- お客様の現在地に関するデータを含む、地図、方向、その他のGPSデータまたはナビゲーションデータは、利用不可能、不正確または不完全な場合があります。
- 充電中に着用または洗浄しないでください(該当する場合)。

重要安全提示

- 保存这些提示。
- 请勿拆卸本产品。本产品及其电池含有的物质可能会对环境及/或人类健康造成危害，请正确使用。
- 不要在可能会引起危险的情况下使用本产品，例如不得在操作重型机械时使用本产品，也不得在驾驶机动车时使用本产品，因为这样将引起您的视线离开道路或因注意力集中于产品使用而无法集中于驾驶活动。
- 不要让产品曝露于极高或极低温度、持续接受阳光直射或者遭受高水压。
- 不得将产品交给儿童玩耍：产品的微小零件可能会引起窒息！
- 本产品不适用于如果出现故障则会引起死亡、人身伤害或严重环境危害的情况。
- 地图、方向和其他GPS或导航数据，包括与您的当前位置相关的数据，可能无法获得、不准确或者不完整。
- (对于需要充电的型号) 不要在充电时佩戴或清洗产品。

極為重要的安全說明

- 請妥善保管這些說明。
- 切勿試圖打開、拆開或者篡改「產品」。如果處理和處置不當，該產品所含的物質及/或其電池可能會危害自然環境及/或人身健康。
- 切勿在會造成危險處境的情形下使用「產品」。例如：在操作重型機械或者駕駛移動車輛時使用「產品」。這樣做可能會使您的目光離開路面或者由於全神貫注操作「產品」而影響駕駛行為。
- 請勿讓產品長時間地曝曬於極度高溫或低溫、持續直接陽光照射或是遭受高水壓。
- 切勿讓兒童把玩您的「產品」；其中的小組件可能會造成窒息！
- 不得在「產品」故障會導致死亡、人身傷害或重大環境損害的情況下使用「產品」。
- 地圖、方向及其他GPS或導航數據，包括關於您目前位置的數據，可能無法獲得、不準確或不完整。
- (如適用) 充電時，切勿佩戴或者清潔「產品」。

중요 안전 지침

- 이 지침을 따르십시오.
- 제품을 열거나, 해체 또는 조작하려고 시도하지 마십시오. 이 제품이 내장된 물질 및/또는 배터리를 부적절하게 다루거나 폐기하면 환경 및/또는 인체 건강에 해로울 수 있습니다.
- 이 제품을 중앙방어를 운전하거나 움직이는 차량을 운전하면서 사용하는 등 위험한 상황이 발생할 수 있는 환경에서 사용하지 마십시오. 그러면 도로에서 눈을 떼게 되거나 운전에 집중하는 능력이 다른 데 집중하느라 방해받을 수 있습니다.
- 제품을 지나친 고온/저온, 장시간의 직사광선, 높은 수압에 노출시키지 마십시오.
- 절대 어린이가 이 제품을 가지고 놀도록 방지하지 마십시오. 작은 부품들 때문에 질식사할 위험이 있습니다.
- 이 제품은 제품 고장 또는 사망, 부상 또는 심각한 화상을 유발할 수 있는 곳에서 사용하면 안 됩니다.
- 지도, 방향, 기타 GPS 또는 현재 위치와 관련된 데이터를 포함한 내비게이션 데이터는 사용할 수 없거나 부정확하거나 불완전할 수 있습니다.
- (해당 경우) 제품을 충전하는 동안 제품을 착용하거나 청소하지 마십시오.

คำแนะนําด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้
- อย่าพยายามเปิด, แยกส่วนประกอบหรือทำลายผลิตภัณฑ์ วัสดุที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์นี้และ/หรือแบตเตอรี่ของมันอาจสร้างความเสียหายให้แก่สภาพแวดล้อมและ/หรือสุขภาพของมนุษย์ได้หากไม่ได้รับการจัดการและกำจัดอย่างเหมาะสม
- อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพที่อาจทำให้คุณและสายตางจากถนนหรือสนใจต่อกิจกรรมจนทำให้ความสามารถของคุณในการมีสมาธิในการขับรถลดลง
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมาก แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน หรือความดันแก๊ส
- อย่าอนุญาตให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์; ส่วนประกอบขนาดเล็กอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการสำลักได้
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานหากการทำงานล้มเหลวของผลิตภัณฑ์สามารถนำไปสู่การเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมได้
- แผนที่ทิศทางและข้อมูล GPS หรือการนำทางอื่น ๆ ที่รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งปัจจุบันของคุณอาจไม่สามารถใช้งานได้ ไม่แม่นยำหรือไม่ครบถ้วน
- (หากปรับใช้ได้) อย่าสวมหรือหาความสะอาดผลิตภัณฑ์ของคุณระหว่างการทำงาน

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tyto pokyny si uschovejte.
- Nepokoušejte se výrobek otevírat, rozebírat, ani s ním jinak manipulovat.Látky obsažené v tomto výrobku a/nebo jeho baterii mohou při nesprávném zacházení a likvidaci poškodit životní prostředí a/nebo lidské zdraví.
- Nepoužívejte výrobek za okolností, které by mohly způsobit nebezpečnou situaci, například při obsluhování těžkých strojů nebo řízení pohyblivého vozidla, kdy byste mohli přestat sledovat vozovku nebo se jinak nechali vtáhnout do činnosti a vaše schopnost soustředit se na řízení by byla narušena.
- Nevystavujte výrobek extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, přímému slunečnímu světlu po delší dobu nebo vysokému tlaku vody.
- Nikdy nedovoďte dětem, aby si hrály s výrobkem. Malé součásti mohou představovat nebezpečí udušení!
- Výrobek není určen k použití tam, kde jeho selhání může vést k úmrtí, zranění nebo vážnému poškození životního prostředí.
- Mapy, pokyny k cestě a další údaje GPS nebo navigace, včetně údajů týkajících se vaší aktuální polohy, mohou být nedostupné, nepřesné nebo neúplné.
- (Je-li to na místě) Nenoste a nečistěte výrobek v době, kdy jej nabíjíte.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

- Hãy giữ hướng dẫn này.
- Không mở, tháo hoặc làm giả mạo Sản phẩm. Các vật liệu bên trong sản phẩm này và/hoặc pin của nó có thể làm tổn hại đến môi trường và/hoặc sức khỏe con người nếu không được xử lý đúng cách.
- Không sử dụng Sản phẩm trong những trường hợp có thể gây ra tình huống nguy hiểm, ví dụ như sử dụng Sản phẩm trong khi vận hành máy móc lớn hoặc điều khiển phương tiện đang di chuyển theo cách có thể khiến bạn rời mắt khỏi đường đi hoặc quá chú ý vào hoạt động đến mức khó nâng tập trung lái xe bị suy giảm.
- Không để Sản phẩm tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, hoặc áp lực nước lớn.
- Không bao giờ cho phép trẻ em chơi với sản phẩm, các linh kiện nhỏ có thể gây ra hóc!
- Sản phẩm không được sử dụng ở nơi mà việc sản phẩm hỏng hóc có thể dẫn tới chết người, chấn thương hoặc tổn hại nghiêm trọng tới môi trường.
- Bản đồ, hướng đi và các dữ liệu điều hướng hoặc GPS khác, bao gồm các dữ liệu liên quan tới vị trí hiện tại của bạn, có thể không hiển thị, hiển thị không chính xác hoặc không trọn vẹn.
- (Nếu có) Không đeo hoặc vệ sinh Sản phẩm trong khi đang sạc.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Сохраните эти инструкции.
- Не пытайтесь открывать или разбирать это Изделие или иным образом вмешиваться в его работу. Вещества, содержащиеся в этом Изделии и/или его батарее, могут повредить окружающей среде или здоровью человека, если с ними неправильно обращаться и неправильно их утилизировать.
- Не используйте Изделие в условиях, которые могут привести к возникновению опасной ситуации. К таким условиям относится использование Изделия при управлении тяжелым оборудованием или за рулем движущегося автомобиля таким образом, который может заставить вас отвести взгляд от дороги или настолько увлечься деятельностью, что вы не сможете сосредоточиться на процессе вождения.
- Не подвергайте Изделие воздействию крайне высоких или низких температур, прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени или воды под высоким давлением.
- Никогда не позволяйте детям играть с Изделием; поскольку его компоненты малого размера могут создать опасность удушья!
- Изделие не предназначено для использования в ситуациях, когда его неисправление может привести к смерти, травме или причинить серьезный ущерб окружающей среде.
- Карты, маршрутные указания и иные данные GPS и данные навигации, включая данные, касающиеся вашего текущего геолокационного местоположения, могут оказаться недоступными, неточными или неполными.
- (Если применимо) Не надевайте и не очищайте ваше Изделие во время зарядки.

IMPORTANT HEALTH PRECAUTIONS

Your use of the Product is solely at your own risk. We do not make any representations, warranties or promises about the accuracy, reliability or effectiveness of any of the Product's functions or services, including without limitation, the number of steps you've taken, calories burned, sleep quality or duration, heart rate (if applicable), and other information. The Product is intended to provide a reasonable approximation of information such as pace, steps, calories burned, distance covered, heart rate (if applicable) and sleep. However, the Product relies on the accuracy of the information you input, uses algorithms that are not necessarily perfect and is subject to other factors beyond our control. For instance while the heart rate monitor may typically provide an accurate estimate of a user's heart rate, there are inherent limitations with the technology that may cause some of the heart rate readings to be inaccurate under certain circumstances, such as the fit of the device, physiology of the user and the type and intensity of the activity. We do not guarantee that the information provided by the Product is 100% accurate. The Product will not precisely track each calorie burned or each step taken, and will not precisely report pace, distance covered, heart rate, or sleep.

The Product, including any included software, is not a medical device and is intended for fitness purposes only. It is not designed or intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment, or prevention of disease. Always seek the advice of a qualified medical professional before making any changes to your exercise, sleep, or nutrition, as doing so may cause severe harm or death.

PERSONS WITH IMPLANTED MEDICAL DEVICES SHOULD:

(If applicable) Consult your physician before using a heart rate monitor.

Keep the Product more than 20 centimeters away from their medical device when the Product is turned on.

Never carry the Product in their breast pocket.

Use the wrist opposite the implanted medical device to minimize potential for RF interference.

Do not wear the Product if you notice any interference.

CHARGING DOCK OPERATION (FOR PRODUCTS WITH RECHARGEABLE BATTERIES ONLY)

The charging dock is designed for tabletop use. To be compliant with RF exposure guidelines and to avoid interference with implanted medical devices, maintain a distance of at least 15 centimeters (approximately 6 inches) from the charging dock.

BUILT-IN BATTERY PRECAUTIONS (FOR PRODUCTS WITH RECHARGEABLE BATTERIES ONLY)

Do not dispose of your Product in a fire. The battery could explode.

Do not attempt to replace your Product's battery. It is built-in and not changeable. The battery should be serviced only by

MICHAEL KORS authorized service centers.

Charge the battery in accordance with the instructions.

Recharge your battery only with MICHAEL KORS-approved chargers that are specifically designed for your Product.

Do not attempt to force open the built-in battery.

Your Product uses a California Energy Commission battery charger.

Batteries (and all electronic equipment) must be recycled or disposed of separately from household waste.

WARNING! Use of non-MICHAEL KORS approved battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

MICHAEL KORS's warranty does not cover damage to the device caused by non-MICHAEL KORS approved batteries and/or chargers.

WARNING! Certain items are fitted with lithium batteries that may contain perchlorate material - special handling may apply. See

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate for more information.

NOTE THE FOLLOWING WHEN USING MICHAEL KORS DISPLAY/TOUCH-SCREEN DEVICES

WARNING REGARDING DISPLAY: The display on your device is made of glass or acrylic and could break if your device is dropped or if it receives significant impact. Do not use if screen is broken or cracked as this could cause injury to you.

WARRANTY DISCLAIMER- PROPER USE OF A TOUCH-SCREEN DEVICE: If your device has a touch-screen display, please note that a touch-screen responds best to a light touch from the pad of your finger or a non-metallic stylus. Using excessive force or a metallic object when pressing on the touch-screen may damage the tempered glass surface and void the warranty. For more information, please refer to the "Standard Limited Warranty."

IMPORTANT! Do not allow the touch-screen to come into contact with other electrical devices. Electrostatic discharges can cause the touch screen to malfunction.

CAUTION! To avoid damaging the touch screen, do not tap it with anything sharp or apply excessive pressure to it with your fingertips.

Product specific, regulatory information, certification, and compliance marks can be found on this product. Go to Settings > System > About > Regulatory Information.

Additional product information can be found in the Quick Start Guide under "Regulatory and Safety Notices".

For additional information see Regulatory Notices or visit <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

18

VIGTIGE SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER

Din brug af Produktet sker på helt egen risiko. Vi giver ikke nogen erklæringer, garantier eller løfter om nøjagtigheden, pålideligheden eller effektiviteten af nogen som helst af Produktets funktioner eller serviceydelser, herunder, uden begrænsning, antallet af skridt du har taget, forbrændte kalorier, søvnkvalitet eller -varighed, puls og andre informationer. Produktet er beregnet til at give en rimelig tilnærmet information om f.eks. tempo, skridt, forbrændte kalorier, tilbagelagt afstand, puls og søvn. Men Produktet er afhængig af nøjagtigheden af de oplysninger, du indtaster, og anvender algoritmer, der ikke nødvendigvis er perfekte, og er påvirket af andre faktorer uden for vores kontrol. For eksempel kan pulsmåleren typisk give et præcist skøn over en brugers puls, men teknologien har indbyggede begrænsninger, der under visse omstændigheder kan forårsage unøjagtighed af nogle af pulsmålingerne, såsom hvordan enheden sidder på brugeren, brugerens fysiologi og typen og intensiteten af aktiviteten. Vi garanterer ikke, at de oplysninger, som Produktet giver, er 100 % korrekte. Produktet vil ikke præcist måle hver forbrændt kalorie eller hvert skridt, du tager, og vil ikke præcist vise tempo, tilbagelagt afstand, puls eller søvn.

Produktet, inklusiv enhver inkluderet software, er ikke medicinsk udstyr, og er kun beregnet til fitness-formål. Det er ikke designet, eller beregnet til brug ved, til diagnosticere sygdom eller andre tilstande, eller til helbredelse, afhjælpning, behandling eller forebyggelse af sygdom. Søg altid kvalificeret lægehjælp inden du foretager ændringer i træning, søvn eller ernæring, da dette kan forårsage alvorlig skade eller død.

PERSONER MED INDOPERERET MEDICINSK UDSTYR BØR:

(Hvis relevant) Snak med din læge, inden du bruger en pulsmåler.

Hold produktet mere end 20 centimeter fra deres medicinske udstyr når produktet er tændt.

Aldrig bær produktet i deres brystlomme.

Anvend håndledet modsat det indopererede medicinske udstyr for at minimere risikoen for RF-interferens.

Bær ikke produktet hvis du bemærker interferens.

BRUG AF OPLADNINGS-DOCK (KUN FOR PRODUKTER MED GENOPLADELIGE BATTERIER)

Opladnings-docken er beregnet til brug på bordplade. For at være i overensstemmelse med retningslinjerne for RF-eksponering og for at undgå interferens med indopereret medicinsk udstyr, hold en afstand på mindst 15 centimeter (ca. 6 tommer) fra opladnings-docken.

FORHOLDSREGLER FOR INDBYGGET BATTERI (KUN FOR PRODUKTER MED GENOPLADELIGT BATTERI)

Brænd ikke dit produkt ved bortskaffning. Batteriet kan eksplodere.

Forsøg ikke at udskifte dit produkts batteri. Det er indbygget og ikke udskifteligt. Batteriet bør kun serviceres af MICHAEL KORS- autoriserede servicecentre.

Oplad batteriet i overensstemmelse med instruktionerne.

Oplad kun dit batteri med MICHAEL KORS-godkendte opladere, som er specifikt designede til dit Produkt.

Prøv ikke at åbne det indbyggede batteri med magt.

Dit Produkt anvender en California Energy Commission batterioplader.

Batterier (og alt elektronisk udstyr) må ikke smides i husholdningsaffald.

ADVARSEL! Brug af batteri og oplader som ikke er MICHAEL KORS-godkendt, kan give risiko for brand, eksplosion, lækage eller anden fare. MICHAEL KORS's garanti dækker ikke skader på enheden forårsaget af batterier og/eller opladere, som ikke er MICHAEL KORS-godkendt.

ADVARSEL! Visse objekter indeholder litium-batterier, som kan indeholde perchlorat-materiale - særlig håndtering kan være påkrævet. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate for flere oplysninger.

BEMÆRK FØLGENDE NÅR DER ANVENDES MICHAEL KORS-ENHEDER MED TOUCH-SKÆRM

ADVARSEL ANGAENDE SKÆRM: Din enheds skærm er fremstillet af glas eller akryl og kan gå i stykker, hvis din enhed tabes eller får et kraftigt slag. Brug ikke skærmen hvis den er ødelagt eller evnet da dette kan skade dig.

GARANTI-ANSVARSRASKRIVELSE: PASSENDE BRUG AF ENHED MED TOUCH-SKÆRM Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm, så vær opmærksom på at touch-skærmen reagerer bedst på et let tryk fra din fingerspids eller en ikke-metallisk stylus. Brug af overdreven kraft eller metalobjekt, når der trykkes på touch-skærmen, kan beskadige den hærdede glasoverflade og ugyldiggøre garantien. For flere oplysninger se den "Begrænsede Standardgaranti."

VIGTIGT! Lad ikke touch-skærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk afladning kan forårsage fejlfunktion i skærmen.

FORSIGTIG! Tryk ikke med noget skarpt, eller med overdreven kraft med dine fingerspidser for at undgå beskadigelse af touch-skærmen.

"For yderligere information se regulationsbemærkninger eller besøg <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT UW GEZONDHEID

Het gebruik van het product is uitsluitend op uw eigen risico. Wij geven geen verklaringen, garanties of toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of doeltreffendheid van enige functies of diensten, waaronder, en zonder beperking, het aantal stappen dat u hebt gemaakt, de verbrande calorieën, de slaapkwaliteit of slaapduur, de hartslag en andere informatie. Het product is bestemd voor het verstreken van een redelijke benadering van informatie zoals tempo, stappen, verbrande calorieën, afstand, hartslag en slaap. Echter, het product is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de informatie die u opgeeft en algoritmes die niet noodzakelijkerwijs perfect zijn en is onderhevig aan andere factoren buiten onze controle. De hartslagmeter geeft bijvoorbeeld doorgaans een nauwkeurige schatting van de hartfrequentie. Er zijn echter inherente beperkingen aan de technologie waardoor de hartslagmetingen onnauwkeurig kunnen zijn en beïnvloed kunnen worden door andere factoren, zoals de pasvorm van het apparaat, de fysiologie van de gebruiker en het type en de intensiteit van de activiteit. Wij garanderen niet dat de informatie die door het product wordt geleverd 100% betrouwbaar is. Het product zal niet precies elke verbrande calorie of elke stap registreren en zal geen exacte informatie geven van tempo, afstand, hartslag of slaap.

Het product, inclusief de meegeleverde software, is geen medisch apparaat en is uitsluitend bedoeld voor fitness-doelinden. Het product is niet ontworpen of bedoeld voor de diagnose, behandeling, preventie of genezing van ziektes of aandoeningen. Vraag altijd het advies van een arts voordat u veranderingen aanbrengt in uw trainingsschema, slaapritme of voedingspatroon, omdat dit de dood of ernstig letsel kan veroorzaken.

AANWIJZING VOOR PERSONEN MET MEDISCHE IMPLANTATEN:

(Indien van toepassing) Raadpleeg uw arts voordat u een hartslagmeter gaat gebruiken. Houd het product meer dan 20 centimeter uit de buurt van het implantaat wanneer het product aan staat. Draag het product niet in de borstzak. Draag het product om de pols tegenover het geïmplanteerde medische apparaat om mogelijke RF-interferentie te minimaliseren. Stop met het dragen van het product als u interferentie bemerkt.

OPLAADSTATION (ALLEEN VOOR OPLAADBARE PRODUCTEN)

Het oplaadstation is ontworpen voor gebruik op een tafelblad. Om te voldoen aan richtlijnen voor RF-blootstelling en om interferentie met geïmplanteerde medische apparaten te voorkomen, moet u minstens 15 cm (ongeveer 6 inch) afstand tot het oplaadstation bewaren.

WAARSCHUWING INGEBOUWDE BATTERIJ (ALLEEN VOOR PRODUCTEN MET OPLAADBARE BATTERIJ)

Gooi het product niet in open vuur. De batterij kan ontploffen. Probeer niet zelf de ingebouwde batterij te vervangen. De batterij is vast ingebouwd en kan niet worden vervangen. De batterij kan alleen worden vervangen in geautoriseerde servicecenters van MICHAEL KORS. Laad de batterij op volgens de aanwijzingen. Gebruik het product uitsluitend met opladers die door MICHAEL KORS zijn goedgekeurd en die specifiek voor dit product zijn ontwikkeld. Probeer niet de ingebouwde batterij met geweld te openen. Het product gebruikt een zg. 'California Energy Commission' oplader. Batterijen (en alle elektronische apparatuur) moeten worden gerecycled of worden gescheiden van huishoudelijk afval.

WAARSCHUWING! Het gebruik van batterijen of laders die niet door MICHAEL KORS zijn goedgekeurd, geeft een risico op brand, explosie, lekkage of ander gevaar. De garantie van MICHAEL KORS dekt geen schade aan het apparaat die veroorzaakt is door het gebruik van andere dan door MICHAEL KORS goedgekeurde batterijen en/of laders. WAARSCHUWING! Bepaalde items zijn uitgerust met lithium-batterijen en kunnen perchloratmateriaal bevatten. Deze producten moeten mogelijk speciaal behandeld worden. Kijk op www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate voor meer informatie.

OPMERKING BIJ HET GEBRUIK VAN MICHAEL KORS PRODUCTEN MET DISPLAY OF TOUCHSCREEN

WAARSCHUWING OVER HET DISPLAY. Het display op het apparaat is gemaakt van glas of plastic en kan breken bij stoten of als het apparaat valt. Gebruik het apparaat niet als het display gebroken of gescheut is, omdat dit tot letsel kan leiden.

UITSLUITING: CORRECT GEBRUIK VAN HET TOUCHSCREEN. Als uw apparaat beschikt over een touchscreen-scherm, houd er dan rekening mee dat een touchscreen het beste reageert op een lichte aanraking van de vinger of een niet-metalen pen. Het gebruik van buitensporig geweld of een metalen voorwerp op het touchscreen kan het glasoppervlak beschadigen en hierbij vervalt de garantie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatie over de Standaard Garantie.

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat het touchscreen niet in aanraking komt met elektrische objecten. Elektrostatische ontladingen kunnen ervoor zorgen dat het display niet juist werkt.

OPGELET: Om beschadiging van het touchscreen te voorkomen, gebruik geen scherpe objecten op het touchscreen en voer geen excessieve druk uit.

Zie de Wettelijke Voorschriften voor meer informatie of bezoek <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

VIKTIGA HÅLSÖFÖRESKRIFTER

Din användning av Produkten sker helt på egen risk. Vi gör inte några uttåtelser, garantier eller löften om precision, tillförlitlighet och effektivitet i någon av Produktens funktioner eller tjänster, inklusive, utan begränsning, antalet steg du har tagit, brända kalorier, sömnkvalitet eller varaktighet, puls eller annan information. Produkten ska ge en rimlig uppskattning av information såsom tempo, steg, brända kalorier, avverkad sträcka, puls och sömn. Produkten förlitar sig på riktigheten i de uppgifter som du matar in, använder algoritmer som inte nödvändigtvis är perfekta och är föremål för andra faktorer utom vår kontroll. Medan pulsmätaren vanligtvis kan ge en exakt uppskattning av en användares puls, finns det exempelvis inbyggda begränsningar i tekniken som kan resultera i att vissa pulsväsläsningar är felaktiga under vissa omständigheter, såsom enhetens anpassning, användarens fysiologi och aktivitetsstyp och intensitet. Vi garanterar inte att den information som tillhandahålls av Produkten är 100 % rätt. Produkten kommer inte precis följa varje kalori som förbräns eller varje steg som tas, och kommer inte att precis rapportera tempo, avverkad sträcka, puls eller sömn.

Produkten, inklusive eventuellt medföljande programvara, är inte en medicinteknisk produkt och är endast avsedd för träningsändamål. Den är inte utformad eller avsedd för användning vid diagnos av sjukdomar eller andra tillstånd, eller för att bota, lindra, behandla eller förebygga sjukdomar. Sök alltid rådgivning från kvalificerad vårdpersonal innan du gör några ändringar i din träning, sömn eller kost eftersom att göra det kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall.

PERSONER MED IMPLANTERADE MEDICINTEKNISKA PRODUKTER BÖR:

(Om tillämpligt) Rådgröj med din läkare innan du använder en pulsmätare. Hållå väj produkt minst 20 centimeter från den medicintekniska produkten när den är påslagen. Aldrig bära produkten i bröstfickan. Använda handleden på motsatt sida från den implanterade medicintekniska produkten för att minimera risken för RF-störningar. Inte använda produkten om eventuella störningar uppstår.

ANVÄNDNING AV LADDNINGSDOCKAN (ENDAST FÖR PRODUKTER MED LADDNINGSBARA BATTERIER)

Laddningsdockan är avsedd för bordsbruk. För att följa riktlinjerna för RF-strålning och för att undvika störningar av implanterade medicintekniska produkter ska ett avstånd på minst 15 centimeter hållas till laddningsdockan.

FÖRESKRIFTER FÖR INBYGGT BATTERI (ENDAST FÖR PRODUKTER MED LADDNINGSBARA BATTERIER)

Avyttra inte produkten genom bränning. Batteriet kan explodera. Försök inte att ersätta din produkts batteri. Det är inbyggt och inte utbytbar. Batteriet bör endast servas av MICHAEL KORS auktoriserade servicecentra. Ladda batteriet i enlighet med instruktionerna. Ladda endast upp batteriet med laddare godkända av MICHAEL KORS som är särskilt utformade för din produkt. Försök inte att öppna det inbyggda batteriet med tvång. Din produkt använder California Energy Commission-batteriladdare. Batterier (och all elektronisk utrustning) måste återvinnas eller avyttras separerat från hushållsavfallet.

VARNING! Användning av batterier eller laddare som inte godkända av MICHAEL KORS kan innebära risk för brand, explosion, läckage eller andra faror. Garantin från MICHAEL KORS täcker inte skador på produkten som orsakats av batterier och/eller laddare som inte godkända av MICHAEL KORS.

VARNING! Vissa artiklar innehåller litium-batterier som kan innehålla materialet perklaror vilket kan innebära särskild hantering. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate för ytterligare information.

OBSERVER FÖLJANDE NÄR DU ANVÄNDER DISPLAY/PEKSÄRMSENHETER FRÅN MICHAEL KORS.

VARNING GALLANDE DISPLAY Din enhets display är gjord av glas eller akryl och kan gå sönder om du tappar din enhet eller den får rejåla stötar. Använd inte skärmen om den är trasig eller sprucken då detta kan orsaka personskador

GARANTIFRISKRIVNING: KORREKT ANVÄNDNING AV EN PEKSÄRMSENHET. Observera att om din enhet har en pekskärm svarar denna bäst på en lätt beröring från din fingertopp eller en icke-metallisk pekenna. Överdriven kraft eller metalliska föremål som används för att peka på skärmen kan skada det hårda glaslet och göra garantin ogiltig. Se "Begränsad standardgaranti" för mer information.

VIKTIGT! Se till att pekskrmen inte kommer i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskrmen slutar fungera. VARNING! För att undvika att skada den bör du inte peka på pekskrmen med något vasst eller med överdrivet tryck från fingertopparna.

För ytterligare information se föreskrifter eller besök <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

VIKTIGE HELSEMESSIGE FORHOLDSREGLER

All bruk av produktet skjer utelukkende på egen risiko. Vi kommer ikke med noen form for påstander, garantier eller løfter om nøyaktigheten, påliteligheten eller effektiviteten til noen av produktets funksjoner eller tjenester. Dette omfatter, uten begrensning, antall skritt du har tatt, kaloriforbruk, søvnkvalitet og -lengde, puls og annen informasjon. Produktet er ment å skulle gi deg et rimelig anslag over f.eks. tempo, skritt, kaloriforbruk, tilbakelagt distanse, puls og søvn. Produktet er imidlertid avhengig av nøyaktigheten til informasjonen du legger inn, det bruker algoritmer som ikke nødvendigvis er perfekte, og det er avhengig av andre faktorer som ligger utenfor vår kontroll. For eksempel kan pulsmåleren vanligvis gi et nøyaktig estimat av brukerens puls, men teknologien har iboende begrensninger som kan forårsake at avlesingen av pulsen kan være unøyaktig under visse omstendigheter, for eksempel hvor godt enheten sitter, brukerens fysiologi og aktivitetsens type og intensitet. Vi garanterer ikke at informasjonen fra produktet er 100 % nøyaktig. Produktet vil ikke nøyaktig spore hvor forbrente kalori eller hvert skritt man tar, og det vil ikke rapportere tempo, tilbakelagt distanse, puls eller søvn fullstendig nøyaktig.

Produktet, inkludert eventuelt medfølgende programvare, er ikke et medisinsk apparat, og er beregnet for treningsformål. Det er ikke utformet eller beregnet for bruk ved diagnostisering av sykdom eller andre forhold, eller til helbredelse, lindring, behandling eller forebygging av sykdom. Søk alltid råd fra en kvalifisert medisinsk fagperson før du gjør noen endringer i trening, søvn, eller ernæring, da dette kan forårsake alvorlig skade eller død.

PERSONER MED IMPLANTAT BØR:

(Hvis aktuelt) Rådfrå deg med lege før du bruker en pulsklokke. Hold minst 20 cm avstand fra den medisinske enheten når produktet er skrudd på. Bær aldri produktet i brystloppen. Bruk håndleddet motsatt av implantatet for å minske muligheten for RF-forstyrrelser. Ikke bruk produktet hvis du merker forstyrrelser eller interferens.

BRUK AV DOKKINGSTASJON (KUN FOR PRODUKTER MED OPPLADBARE BATTERIER)

Dokkingstasjonen er utformet for bruk på bordet. For å være i samsvar med retningslinjene for RF-eksponering og for å unngå interferens med medisinske implantater, må man holde en avstand på minst 15 cm (ca. 6 tommer) fra dokkingstasjonen.

FORHOLDSREGLER FOR INNEBYGD BATTERI (KUN FOR PRODUKTER MED OPPLADBARE BATTERIER)

Ikke kast produktet i en brann. Batteriet kan eksplodere. Ikke forsøk å erstatte produktbatteriet. Det er innebygd og ikke byttes ut. Batteriet skal kun repareres av MICHAEL KORS autoriserte servicecentre. Lad opp batteriet i henhold til instruksjonene. Kun lade batteriet med MICHAEL KORS-godkjente ladere som er spesielt er utformet for ditt produkt. Ikke forsøk å åpne det innebygde batteriet. Produktet bruker en batterilader godkjent av California Energy Commission. Batterier (og all elektronisk utstyr) må resirkuleres eller avhendes separat fra husholdningsavfall.

ADVARSEL! Bruk av ikke-MICHAEL KORS godkjente batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer. MICHAEL KORSs garanti dekker ikke skader på enheten forårsaket av ikke-MICHAEL KORS godkjente batterier og/eller ladere. **ADVARSEL!** Enkelte produkter er utstyrt med litium-batterier som kan inneholde perklorater - spesiell håndtering kan gjelde. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate for mer informasjon.

LEGG MERKE TIL FØLGENDE NÅR DU BRUKER MICHAEL KORS ENHETER MED SKJERM/BERØRINGSSKJERM

ADVARSEL OM SKJERM Skjermen på enheten er laget av glass eller akryl og kan knuses hvis enheten mistes eller hvis den mottar et betydelig støt. Må ikke brukes hvis skjermen er knust eller sprukket, da dette kan føre til personskader.

GARANTIFRASKRIVELSE: RIKTIG BRUK AV EN ENHET MED BERØRINGSSKJERM. Hvis enheten har en berøringsskjerm, vær oppmerksom på at skjermen svarer best på en lett berøring fra puten av fingeren eller en ikke-metallisk penn. Bruke overdreven makt eller en metalligjenstand, når du trykker på berøringsskjermen kan skade glassoverflaten og gjøre garantien ugyldig. For mer informasjon, vennligst se "standard begrenset garanti."

VIKTIG! Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske enheter. Elektrostatisk utladninger kan føre til at berøringsskjermen svikter. **FORSIKTIGHET!** For å unngå skade på skjermen, må du ikke trykke på den med noe skarpt eller trykke hardt på den med fingertuppene.

For mer informasjon, se Regulatory Notice eller <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

WICHTIGE GESUNDHEITSVORSORGEABNAHMEN:

Ihre Nutzung dieses Produktes erfolgt ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko. Wir geben keine Angaben, Garantien oder Versprechen bezüglich der Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Wirksamkeit der Funktionen oder Services der Produkte, einschließlich, ohne Einschränkung, der Anzahl der gemachten Schritte, verbrannten Kalorien, Schlafqualität oder -dauer, Herzfrequenz und anderer Informationen. Das Produkt ist dazu gedacht, angemessene Informationen wie Tempo, Schritte, verbrannte Kalorien, zurückgelegte Entfernung, Herzfrequenz und Schlaf bereitzustellen. Das Produkt hängt jedoch von der Genauigkeit der Informationen ab, die Sie eingeben. Es nutzt Algorithmen, die nicht zwangsläufig perfekt sind und es unterliegt anderen Faktoren außerhalb seiner Kontrolle. Obwohl zum Beispiel das Herzfrequenzmessgerät normalerweise eine zutreffende Schätzung der Herzfrequenz bietet, bestehen natürlich Beschränkungen bezüglich der Technologie. Diese können dazu führen, dass einige der Herzfrequenzmessungen unter bestimmten Umständen wie aufgrund der Passform des Gerätes, der Physiologie des Nutzers und der Art und Intensität der Aktivität ungenau sein können. Wir garantieren nicht, dass die Informationen, die vom Produkt bereitgestellt werden, 100 % zutreffend sind. Das Produkt wird nicht jede verbrannte Kalorie oder jeden gemachten Schritt präzise tracken. Es wird auch nicht Tempo, zurückgelegte Entfernung, Herzfrequenz oder Schlaf genau berichten.

Das Produkt sowie die zugehörige Software sind keine medizinischen Geräte und ausschließlich für Fitness-Zwecke ausgelegt. Sie sind nicht zur Diagnose einer Erkrankung oder anderer Zustände gedacht oder ausgelegt. Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie Ihre sportliche Betätigungen, Schlaf oder Ernährung umstellen, da dies schwere Gesundheitsschäden oder sogar Tod verursachen kann.

PERSONEN MIT IMPLANTIERTEN MEDIZINISCHEN GERÄTEN SOLLTEN:

(Falls zutreffend) Lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten, bevor Sie ein Herzfrequenzmessgerät nutzen. Das eingeschaltete Produkt mehr als 20 cm von dem medizinischen Gerät entfernt halten. Das Produkt niemals in ihrer Brusttasche tragen. Das Handgelenk gegenüber dem implantierten medizinischen Gerät tragen, um potenzielle RF-Interferenzen zu minimieren. Das Produkt nicht verwenden, wenn Sie Interferenzen bemerken.

BEDIENUNG DER LADESTATION (NUR FÜR PRODUKTE MIT AUFLADBAREN AKKUS)

Die Ladestation wurde für den aufrechten Betrieb entworfen. Bitte halten Sie wenigstens 15 cm (ca. 6 Inch) Abstand von der Ladestation, um den RF-Richtlinien zum Strahlenschutz zu entsprechen und Störungen von implantierten medizinischen Geräten zu vermeiden.

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER EINGEBAUTEN BATTERIE (NUR FÜR PRODUKTE MIT AUFLADBAREN AKKUS)

Entsorgen Sie Ihr Produkt nicht im Feuer. Die Batterie kann explodieren. Versuchen Sie nicht, die Batterie Ihres Produktes auszuwechseln. Sie ist eingebaut und nicht auswechselbar. Die Batterie sollte nur von durch MICHAEL KORS autorisierten Service-Centern gewartet werden. Wechseln Sie die Batterie nur gemäß der Anleitung. Laden Sie Ihre Batterie nur mit MICHAEL KORS-autorisierten, speziell für Ihr Produkt entworfenen Ladegeräten auf. Versuchen Sie nicht, den eingebauten Akku gewaltsam zu öffnen. Ihr Produkt verwendet ein Batterieadegerät der kalifornischen Energiebehörde. Batterien (und jegliches elektronische Zubehör) muss recycelt oder vom Hausmüll getrennt entsorgt werden.

ACHTUNG! Die Verwendung von nicht MICHAEL KORS-autorisierten Batterien oder Ladegeräten kann ein Feuer-, Explosions-, Auslauf oder anderes Gefahrenrisiko bergen. Die Gewährleistung von MICHAEL KORS deckt keine Schäden an dem Gerät ab, das durch nicht von MICHAEL KORS autorisierten Batterien und/oder Ladegeräten verursacht wurden. **ACHTUNG!** Bestimmte Gegenstände sind mit Lithiumakkus ausgestattet, die Perchlorat enthalten können - besondere Handhabung kann notwendig sein. Lesen Sie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate für weitere Informationen.

BEACHTEN SIE DAS FOLGENDE, WENN SIE GERÄTE VON MICHAEL KORS MIT DISPLAY/ TOUCH-SCREENS VERWENDEN

WARNUNG BEZÜGLICH DES DISPLAYS: Das Display Ihres Gerätes ist aus Glas oder Acryl hergestellt und kann beschädigt werden, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder starken Stößen ausgesetzt wird. Verwenden Sie es nicht, wenn der Bildschirm zerbrochen oder gerissen ist, da Sie sich daran verletzen können.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: ORDNUNGSGEMÄßER GEBRAUCH EINES GERÄTES MIT TOUCH-SCREEN. Wenn Ihr Gerät einen Touch-Screen hat, beachten Sie bitte, dass diese am besten auf leichten Druck durch Ihre Fingerkuppe oder einen nicht-metallischen Stift reagiert. Übermäßige Kraft oder ein metallisches Objekt können die Hartglasoberfläche beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die „beschränkte Standardgarantie“.

WICHTIG! Lassen Sie den Touch-Screen nicht in Kontakt mit anderen elektrischen Geräten kommen. Elektrostatische Entladungen können zu Störungen des Touch-Screens führen.

VORSICHT! Um Schäden am Touch-Screen zu vermeiden, wenden Sie keine spitzen Gegenstände oder übermäßigen Druck mit Ihrer Fingerkuppe an.

Pour des informations supplémentaires, consultez les conditions de vente ou visitez <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

PRÉCAUTIONS SANITAIRES IMPORTANTES

Votre utilisation du produit se fait à vos propres risques. Nous ne faisons aucune déclaration, garantie ou promesse concernant l'exactitude, la fiabilité ou l'efficacité des fonctionnalités ou des services du produit, y compris mais sans s'y limiter, le nombre de pas, les calories brûlées, la qualité ou la durée du sommeil, la fréquence cardiaque, etc. Le produit est destiné à fournir une approximation raisonnable des informations telles que l'allure, le nombre de pas, les calories brûlées, la distance parcourue, la fréquence cardiaque et le sommeil. Toutefois, le produit repose sur la précision des informations que vous indiquez, utilisez des algorithmes qui ne sont pas nécessairement parfaits et est soumis à d'autres facteurs indépendants de notre volonté. Par exemple, si le cardiofréquencemètre peut généralement fournir une estimation précise de la fréquence cardiaque d'un utilisateur, il existe des limitations inhérentes à la technologie qui peuvent entraîner une certaine inexactitude des données cardiaques dans certaines circonstances, telles que l'état de l'appareil, la physiologie de l'utilisateur et le type et l'intensité de l'activité. Nous ne garantissons pas que les informations fournies par le produit soient 100 % exactes. Le produit ne suivra pas précisément chaque calorie brûlée ou chaque pas réalisé et n'indiquera pas précisément le rythme, la distance parcourue, la fréquence cardiaque ou le sommeil.

Le Produit, y compris tout logiciel inclus, n'est pas un appareil médical et n'est conçu que pour le fitness. Il n'est pas conçu pour diagnostiquer des maladies ou autres problèmes, ou pour soigner, soulager, traiter ou empêcher les maladies. Demandez toujours l'avis d'un professionnel de santé avant de changer vos habitudes d'exercice, de sommeil, ou de nutrition, puisque ce changement pourrait entraîner des blessures graves ou même la mort.

POUR LES PERSONNES ÉQUIPÉES D'IMPLANTS MÉDICAUX :

(Le cas échéant) Consultez votre médecin avant d'utiliser un cardiofréquencemètre. Conserver le produit à une distance supérieure à 20 cm de vos implants médicaux lorsqu'il est allumé. Ne jamais transporter le produit dans une poche de chemise. Utiliser le poignet situé du côté opposé à l'implant médical pour minimiser les risques d'interférences radio. Ne jamais porter le Produit si vous détectez des interférences.

UTILISATION DE LA STATION DE CHARGEMENT (SEULEMENT POUR LES PRODUITS ÉQUIPÉS D'UNE BATTERIE RECHARGEABLE)

La station de chargement est conçue pour être utilisée sur une table. Pour rester conforme avec les normes en matière d'exposition aux fréquences radio et éviter les interférences avec les appareils médicaux implantés, ne vous approchez pas à moins de 15 cm de la station de chargement.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA BATTERIE INTÉGRÉE (SEULEMENT POUR LES PRODUITS ÉQUIPÉS D'UNE BATTERIE RECHARGEABLE)

Ne jetez pas votre produit au feu. La batterie risquerait d'exploser. N'essayez pas de remplacer la batterie de votre produit. Elle est intégrée et n'est pas interchangeable. La batterie peut seulement être manipulée par des centres de réparation de MICHAEL KORS. Chargez la batterie selon les instructions. Ne rechargez votre batterie qu'à l'aide des chargeurs approuvés par MICHAEL KORS spécialement conçus pour votre produit. Ne tentez pas de forcer l'ouverture de la batterie intégrée. Votre produit utilise un chargeur homologué par la CEC. Les batteries (comme tous les équipements électroniques) ne doivent pas être recyclées ou jetées avec les autres déchets ménagers.

ATTENTION ! L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non approuvés par MICHAEL KORS peut entraîner un risque d'explosion, de fuite ou d'autres dangers. La garantie de MICHAEL KORS ne couvre pas les dégâts de l'appareil causés par des batteries et/ou des chargeurs non approuvés par MICHAEL KORS. ATTENTION ! Certains produits sont équipés de batteries au lithium pouvant contenir du perchlorate - Certaines précautions d'utilisation pourraient être requises. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

PRENEZ CONNAISSANCE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES APPAREILS À ÉCRAN/ÉCRAN TACTILE DE MICHAEL KORS.

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ÉCRAN. L'écran de votre appareil est constitué de verre ou d'acrylique et peut se casser en cas de chute ou en cas d'impact important. N'utilisez pas l'appareil si l'écran est cassé ou fendu car vous pourriez vous blesser.

EXCLUSION DE GARANTIE : UTILISATION APPROPRIÉE D'UN APPAREIL À ÉCRAN TACTILE. Si votre appareil dispose d'un affichage à écran tactile, n'oubliez pas qu'un écran tactile réagit mieux si vous effleurez du doigt ou si vous utilisez un stylet

non métallique. Si vous appuyez trop fort ou utilisez un objet métallique pour faire fonctionner l'écran tactile, vous risquez d'endommager la surface en verre trempé et donc d'annuler la garantie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Garantie Limitée Standard ».

POINT IMPORTANT ! Évitez l'écran tactile d'entrer en contact avec d'autres appareils électriques. L'électricité statique peut causer un dysfonctionnement de l'écran tactile. ATTENTION ! Pour éviter d'endommager l'écran tactile, ne vous servez pas d'un objet pointu et n'exercez pas une pression du doigt excessive lorsque vous utilisez votre appareil.

Les informations réglementaires, la certification et les marques de conformité spécifique du produit figurent sur le produit. Allez sur Paramètres > Système > À propos > Renseignements réglementaires. D'autres informations sur le produit figurent dans le Guide de démarrage rapide, à la rubrique « Avis relatifs à la réglementation et à la sécurité ».

Pour plus de détails, consultez les Informations réglementaires ou visitez <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

IMPORTANTI PRECAUZIONI PER LA SALUTE

L'utilizzo di questo Prodotto è a tua totale discrezione. Non dichiariamo, garantiamo o promettiamo che i servizi o le funzioni del Prodotto siano precisi, affidabili o efficaci, compresi, senza limitazione, i dati relativi a passi percorsi, calorie bruciate, qualità o durata del sonno, frequenza cardiaca e altri. Il Prodotto ha lo scopo di fornire delle informazioni ragionevolmente precise come passi, ritmo, calorie bruciate, distanza percorsa, frequenza cardiaca e sonno. Tuttavia, il Prodotto si basa sulle informazioni da te inserite, utilizza degli algoritmi non necessariamente perfetti ed è soggetto a fattori esterni, al di fuori di qualsiasi controllo. Per esempio, sebbene lo strumento di misurazione della frequenza cardiaca possa fornire una stima precisa del battito cardiaco di un utente, sussistono delle limitazioni inerenti alla tecnologia che potrebbero comportare delle letture imprecise, per motivi legati all'integrità del dispositivo, la fisiologia dell'utente ed il tipo di intensità dell'attività. Non garantiamo che le informazioni fornite dal Prodotto siano accurate al 100%. Il Prodotto non calcolerà precisamente ciascuna calorie bruciata o ciascun passo percorso e non indicherà precisamente il ritmo, la distanza percorsa, la frequenza cardiaca o il sonno.

Il prodotto, fra cui qualsiasi software incluso, non è un dispositivo medico ed è destinato unicamente al fitness. Tale dispositivo non è pensato né destinato a effettuare diagnosi di malattie o di altri disturbi, o per la cura, la mitigazione, il trattamento o la prevenzione di malattie. Consultare sempre un medico professionista qualificato prima di apportare modifiche agli esercizi, al sonno, all'alimentazione, in quanto tale modifica potrebbe provocare gravi lesioni o la morte.

CONSIGLI AI PORTATORI DI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTATI:

(Se applicabile) Consulta il tuo dottore prima di utilizzare uno strumento di misurazione della frequenza cardiaca. Tenere il prodotto acceso a più di 20 centimetri di distanza dal dispositivo medico. Non portare mai il prodotto nel taschino. Usare il polso opposto al dispositivo medico per minimizzare potenziali interferenze RF. Non indossare il prodotto se si nota un'interferenza.

FUNZIONAMENTO CARICABATTERIE (PER PRODOTTI ALIMENTATI SOLO A PILE RICARICABILI)

Il caricabatterie è realizzato per essere usato su un tavolo. Nel rispetto delle linee guida sull'esposizione RF e per evitare interferenze con i dispositivi medici impiantati, mantenere una distanza minima di 15 centimetri (approssimativamente 6 pollici) dal caricabatterie.

PRECAUZIONI PILE INTEGRATE (PER PRODOTTI ALIMENTATI SOLO A PILE RICARICABILI)

Non smaltire il prodotto nel fuoco. La pila potrebbe esplodere. Non cercare di sostituire la pila del Prodotto, è integrata e non può essere sostituita. La pila dovrebbe essere sostituita unicamente dai centri di servizio autorizzati di MICHAEL KORS. Ricaricare la pila conformemente alle istruzioni. Ricaricare la pila solo con i caricabatterie approvati da MICHAEL KORS realizzati appositamente per il Prodotto. Non tentare di aprire il vano della batteria integrata. Il Prodotto usa un caricabatterie approvato dalla Commissione per l'energia della California. Le pile (e tutte le apparecchiature elettroniche) devono essere riciclate o smaltite separatamente rispetto ai rifiuti domestici.

ATTENZIONE! L'uso di una pila o un caricatore non approvati da MICHAEL KORS possono causare il rischio d'incendio, esplosione, perdita o altri pericoli. La garanzia di MICHAEL KORS non copre i danni al dispositivo causati da pile e/o caricatori non approvati da MICHAEL KORS. ATTENZIONE! Alcuni articoli sono dotati di batterie al litio che possono contenere materiale perclorato, potrebbero richiedere un trattamento speciale. Per ulteriori informazioni visitare www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

NOTARE QUANTO SEGUE QUANDO SI USANO I DISPOSITIVI CON DISPLAY/TOUCH-SCREEN DI MICHAEL KORS

AVVISO RELATIVO AL DISPLAY Il display del dispositivo è realizzato in vetro o acrilico e può rompersi se questo cade a terra o se riceve un forte impatto. Non usare se il display è rotto o incrinato in quanto potrebbe causare ferite.

ESCLUSIONE DELLA GARANZIA: USO CORRETTO DI UN DISPOSITIVO DOTATO DI TOUCH-SCREEN. Se il dispositivo è dotato di un display touch, si prega di notare che il touch-screen risponde meglio a un leggero tocco dei polpastrelli o di una stilo non metallica. Usare forza eccessiva o un oggetto metallico quando si preme sul touch-screen, può danneggiare la superficie del vetro temperato e annullare la garanzia. Per ulteriori informazioni, consultare la "Garanzia limitata convenzionale."

IMPORTANTE! Evitare che il touch-screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono provocare il malfunzionamento del touch-screen.

ATTENZIONE! Per evitare di danneggiare il touch-screen, non toccare con oggetti affilati né applicare pressione eccessiva con la punta delle dita.

Per maggiori informazioni, consulta le note sulla normativa o la pagina <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SAÚDE

A sua utilização do Produto é da sua única e exclusiva responsabilidade. Não fazemos quaisquer representações, garantias ou promessas quanto à precisão, confiabilidade ou eficácia de qualquer uma das funções ou serviços do Produto, incluindo, sem limitação, o número de passos que deu, as calorias queimadas, a qualidade do sono ou a duração, o ritmo cardíaco ou outra informação. O Produto tem como objetivo fornecer uma aproximação razoável da informação tal como o ritmo, os passos, as calorias queimadas, a distância coberta, o ritmo cardíaco e o sono. Contudo, o Produto depende da precisão da informação que introduzir, utiliza algoritmos que não são necessariamente perfeitos e está sujeito a outros fatores para lá do nosso controlo. Por exemplo, embora o monitor de ritmo cardíaco possa tipicamente fornecer uma estimativa precisa do ritmo cardíaco de um utilizador, existem limitações inerentes com a tecnologia que poderão causar que algumas das leituras do ritmo cardíaco sejam imprecisas em certas circunstâncias, tais como a colocação do dispositivo, a fisiologia do utilizador e o tipo e a intensidade da atividade. Não garantimos que a informação fornecida pelo Produto seja 100% precisa. O Produto não irá seguir com precisão cada caloria queimada ou cada passo dado e não irá reportar com precisão o ritmo, a distância coberta, o ritmo cardíaco ou o sono.

O Produto, bem como qualquer software incluído, não é um dispositivo médico e destina-se apenas à prática de ginástica. Não foi concebido e nem é adequado para ser utilizado no diagnóstico de doenças ou outros estados, ou na cura, atenuação, tratamento ou prevenção de doenças. Procure sempre o conselho de pessoal médico qualificado antes de realizar quaisquer alterações ao seu exercício, sono ou nutrição, dado que tal poderá causar danos severos ou morte.

PESSOAS COM DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTADOS DEVERÃO:

(Se aplicável) Consulte o seu médico antes de utilizar um monitor de ritmo cardíaco.

Mantenha o Produto a mais de 20 centímetros do seu dispositivo médico quando o Produto estiver ligado.

Nunca transporte o Produto no bolso do peito.

Utilizar no pulso oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar a potencial interferência de RF.

Não use o Produto se reparar em alguma interferência.

MANUSEAMENTO DA ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO (APENAS PARA PRODUTOS COM BATERIAS RECARREGÁVEIS)

A estação de carregamento foi concebida para utilização em cima de uma mesa. Para cumprir com as diretrizes de exposição a RF e para evitar interferência com dispositivos médicos implantados, mantenha uma distância de pelo menos 15 centímetros (aproximadamente 6 polegadas) da estação de carregamento.

CUIDADOS COM A BATERIA INTEGRADA (APENAS PARA PRODUTOS COM BATERIAS RECARREGÁVEIS)

Não elimine o seu Produto com fogo. A bateria poderá explodir.

Não tente substituir a bateria do seu Produto. É integrada e insubstituível. A bateria deverá ser trocada apenas por centros de serviço autorizados da MICHAEL KORS.

Carregue a bateria de acordo com as instruções.

Recarregue a sua bateria apenas com carregadores aprovados pela MICHAEL KORS que sejam especificamente concebidos para o seu Produto.

Não tente abrir à força a bateria incluída.

O seu Produto utiliza um carregador de bateria da California Energy Commission.

As baterias (e todos os equipamentos eletrónicos) deverão ser reciclados ou eliminados separadamente do lixo doméstico.

AVISO! A utilização de uma bateria ou carregador não aprovado pela MICHAEL KORS poderá representar risco de fogo, explosão, vazamento ou outro perigo. A garantia da MICHAEL KORS não abrange danos no dispositivo causados por baterias ou

carregadores não aprovados pela MICHAEL KORS.

AVISO! Certos artigos contêm baterias de lítio que poderão conter materiais de perclorato - poderá ser necessário um manuseamento especial. Veja www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate para mais informações.

TENHA EM RELAÇÃO O SEGUINTE AO UTILIZAR DISPOSITIVOS COM ECRÃ/ECRÃ TÁTIL DA MICHAEL KORS

AVISO EM RELAÇÃO AO ECRÃ O ecrã do seu dispositivo é feito de vidro ou acrílico e poderá quebrar se o seu dispositivo cair ou sofrer um impacto considerável. Não o utilize se o ecrã estiver partido ou rachado, pois poderá magoar-se.

EXCLUSÕES DE GARANTIA: UTILIZAÇÃO ADEQUADA DO DISPOSITIVO COM ECRÃ TÁTIL. Se o seu dispositivo tiver um ecrã tátil, por favor, tenha em atenção que o ecrã tátil responde melhor a um toque leve da ponta do seu dedo ou a uma caneta não-metálica. A utilização de força excessiva ou de um objeto metálico ao pressionar o ecrã tátil poderá danificar a superfície de vidro temperado e anular a garantia. Para mais informações, por favor, veja "Garantia Padrão Limitada."

IMPORTANTE! Não permita que o ecrã tátil entre em contacto com outros dispositivos elétricos. As descargas eletroestáticas poderão provocar o mal funcionamento do ecrã tátil.

PERIGO! Para evitar danificar o ecrã tátil, não lhe toque com objetos afiados ou aplique uma pressão excessiva com a ponta dos dedos.

Neste específico do produto as informações sobre a regulamentação, a certificação e as marcas de conformidade. Vá a Configurações > Sistema > Sobre > Informações sobre a Regulamentação. Pode encontrar informações adicionais acerca do produto no Guia de Iniciação Rápida sob " Avisos de Segurança e Regulamentação".

Para mais informações, consulte os Avisos de Regulamentação ou visite <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

PRECAUCIONES IMPORTANTES RELATIVAS A LA SALUD

El uso que usted haga del Producto es únicamente bajo su propia cuenta y riesgo. No declaramos, garantizamos ni prometemos nada en cuanto a la precisión, fiabilidad o efectividad de cualesquiera funciones o servicios del Producto, incluyendo, sin límites, el número de pasos que ha dado, las calorías quemadas, la duración o la calidad del sueño, la frecuencia cardíaca y otra información. El producto está diseñado para ofrecer una estimación razonable de datos como el ritmo, los pasos, las calorías quemadas, la distancia cubierta, la frecuencia cardíaca y el sueño. Sin embargo, el Producto depende de la precisión de la información que usted introduzca, utiliza algoritmos que no son perfectos necesariamente y está sujeto a otros factores que se escapan a nuestro control. Por ejemplo, aunque el monitor de la frecuencia cardíaca puede proporcionar normalmente una estimación precisa de la frecuencia cardíaca de un usuario, hay limitaciones inherentes a la tecnología que podrían causar que algunas de las lecturas de la frecuencia cardíaca sean imprecisas en ciertas circunstancias, como el ajuste del dispositivo, la fisiología del usuario y el tipo e intensidad de la actividad. No garantizamos que la información ofrecida por el Producto sea precisa al 100 %. El Producto no hará un seguimiento de forma exacta de cada caloría quemada o cada paso dado ni informará de forma exacta del ritmo, la distancia recorrida, la frecuencia cardíaca o el sueño.

El Producto, incluido cualquier software que se incluya, no es un dispositivo médico y está pensado para utilizarse solamente en la práctica del ejercicio físico. No está diseñado ni tiene por objeto diagnosticar enfermedades u otras afecciones, ni curar, aliviar, tratar o prevenir enfermedades. Busque siempre asesoramiento médico profesional cualificado antes de realizar cualquier cambio en sus hábitos de ejercicio, descanso y alimentación; actuar de otro modo podría causar daños graves o incluso la muerte.

LAS PERSONAS CON DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTADOS DEBERÍAN:

(En caso de ser aplicable) Consulte a su médico antes de utilizar un monitor de la frecuencia cardíaca.

Mantener el Producto a más de 20 centímetros de sus dispositivos médicos cuando el Producto esté activado.

No llevar nunca el Producto en los bolsillos del pecho.

Usar la muñeca opuesta a la parte del cuerpo donde esté implantado el dispositivo médico con el fin de minimizar las posibles interferencias por radiofrecuencia (RF).

No lleve puesto el Producto en caso de que note interferencias.

FUNCIONAMIENTO DE LA BASE DE CARGA (SOLO PARA PRODUCTOS CON BATERIAS RECARGABLES)

La base de carga está diseñada para utilizarse sobre una mesa. Para cumplir con las normas de exposición a la radiofrecuencia (RF) y evitar interferencias con dispositivos médicos implantados, manténgase alejado de la base de carga a una distancia de al menos 15 centímetros (aproximadamente 6 pulgadas).

PRECAUCIONES RELATIVAS A BATERÍAS INTEGRADAS (SOLO PARA PRODUCTOS CON BATERÍAS RECARGABLES)

No tire el Producto al fuego. La batería podría explotar.

No intente sustituir la batería de su Producto. Está integrada en el dispositivo y no puede sustituirse. La batería debe ser revisada y reparada solamente en centros de servicios autorizados por MICHAEL KORS

Cargue la batería según las instrucciones.

Recargue su batería solo con cargadores homologados por MICHAEL KORS, específicamente diseñados para su Producto.

No intente forzar la batería integrada para abrirla.

Su Producto utiliza un cargador de batería que cumple con los estándares de la Comisión de Energía de California.

Las baterías (y todos los dispositivos electrónicos) se deben reciclar y al desecharlos nunca deben mezclarse con los residuos domésticos.

¡ADVERTENCIA! El uso de baterías o cargadores no aprobados por MICHAEL KORS puede provocar peligro de incendio, explosión y fugas, entre otros. La garantía de MICHAEL KORS no cubre daños al dispositivo ocasionados por la utilización de baterías y/o cargadores no aprobados por MICHAEL KORS.

¡ADVERTENCIA! Determinados productos incluyen baterías de litio que pueden contener material de perclorato y por tanto se deben manipular con precaución. Para más información, visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE CUANDO UTILICE DISPOSITIVOS CON PANTALLA/PANTALLA TÁCTIL DE MICHAEL KORS

AVISO EN CUANTO A LA PANTALLA La pantalla de su dispositivo está fabricada con cristal o acrílico y podría romperse si se cae o recibe un golpe considerable. No utilice el Producto si la pantalla está rota o resquebrajada ya que podría causarle lesiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA: USO ADECUADO DE UN DISPOSITIVO DE PANTALLA TÁCTIL. Si su dispositivo dispone de pantalla táctil, tenga en cuenta que esta responde mejor a un ligero toque con la punta del dedo o con un stylus no metálico. Ejercer demasiada presión o utilizar un objeto metálico sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para más información, consulte la "Garantía limitada estándar".

¡IMPORTANTE! No deje que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden producir un funcionamiento incorrecto de su pantalla táctil.

¡PRECAUCIÓN! Para evitar daños en la pantalla táctil, no la utilice con objetos afilados ni aplique demasiada presión con los dedos.

Puede encontrar información sobre concreto del producto, información normativa y marcas de cumplimiento acerca de este producto. Vaya a Ajustes > Sistema > Acerca de > Información Normativa.

Puede encontrar información adicional sobre el producto en la Guía de Inicio Rápido en "Avisos Normativos y de Seguridad".

Para más información, consulte los Avisos Normativos o visite <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ZDROWIA

Korzystasz z produktu całkowicie na własną odpowiedzialność. Nie dajemy żadnych poświadczeń, gwarancji ani obojętnej odnośnie dokładności, niezawodności czy efektywności jakiegokolwiek funkcji produktu lub usługi, w tym, bez ograniczeń, liczby zrobionych kroków, spalonych kalorii, jakości lub długości snu, tętna i innych informacji. Celem produktu jest zapewnienie rozsądnych danych szacunkowych takich jak: tempo, kroki, spalone kalorie, pokonany dystans, tętno i sen. Produkt polega na dokładności wprowadzonych informacji, wykorzystując algorytmy, które niekoniecznie są idealne i podlega innym czynnikom, które są poza naszą kontrolą. Na przykład, podczas gdy monitor tętna zazwyczaj podaje dokładne szacunkowe tempo użytkownika, technologia ma istotne ograniczenia, które mogą spowodować, że odczyty tętna w pewnych okolicznościach mogą być nieprecyzyjne. Może to być spowodowane nieodpowiednim założeniem urządzenia, fizjologią użytkownika oraz typem i intensywnością aktywności. Nie gwarantujemy, że informacje podane przez urządzenie są dokładne w 100%. Produkt będzie niedokładnie śledził każdą spaloną kalorię i każdy zrobiony krok i będzie niedokładnie podawał tempo, pokonaną odległość, tętno i sen.

Produkt, w tym jakiegokolwiek dołączane oprogramowanie, nie jest urządzeniem medycznym i jest przeznaczony wyłącznie do celów związanych z aktywnością fizyczną. Nie został zaprojektowany lub przeznaczony do stosowania w diagnostyce chorób lub do ich leczenia. Pogodzenia objawów bądź też do zapobiegania chorobom. Należy zawsze zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika medycznego przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian dotyczących ćwiczeń, snu lub sposobu odżywiania, gdyż w przeciwnym razie może dojść do poważnych szkód zdrowotnych lub nawet śmierci.

OSOBY POSIADAJĄCE URZĄDZENIA IMPLANTOWANE MEDYCZNIE POWINNY:

(Jeśli dotyczy) Przed rozpoczęciem korzystania z monitora należy skonsultować się z lekarzem.

Trzymać Produktu w odległości większej niż 20 centymetrów od urządzenia medycznego, gdy produkt jest włączony.

Nie nosić Produktu w kieszeni na piersi.

Nosić Produktu na nadgarstku naprzeciwko miejsca, w którym zostało wszczepione urządzenie medyczne, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń generowanych przez urządzenie wykorzystujące transmisję radiową.

Nie zakładać Produktu, jeśli będą zauważalne jakiegokolwiek zakłócenia.

DZIAŁANIE STACJI DOKUJĄCEJ (DLA URZĄDZEŃ Z BATERIAMI WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA)

Stacja dokująca jest przeznaczona do stosowania na stole. Aby postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi narażenia na działanie fal o

częstotliwości radiowej i uniknąć interferencji z wszczepionymi urządzeniami medycznymi, zachowaj odległość co najmniej 15 centymetrów (około 6 cali) od stacji dokującej.

WBUDOWANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BATERII (DLA URZĄDZEŃ Z BATERIAMI WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA)

Nie wracaj Produktu do ognia. Bateria może wybuchnąć.

Nie próbuj wymieniać baterii w Produkcie. Jest budowana i nie można jej wymienić. Bateria powinna być serwisowana wyłącznie przez autoryzowane centra serwisowe MICHAEL KORS.

Ładuj baterię zgodnie z instrukcjami.

Ładuj baterię wyłącznie przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez MICHAEL KORS, które zostały zaprojektowane specjalnie dla tego Produktu.

Nie próbuj na siłę otworzyć wbudowanej baterii.

Twój Produkt korzysta z ładowarki zatwierdzonej przez Kalifornijską Komisję ds. Energii (California Energy Commission)

Baterie (i cały sprzęt elektroniczny) muszą być poddane recyklingowi i nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi.

OSTRZEŻENIE! Używanie baterii lub ładowarki niezatwierdzonej przez firmę MICHAEL KORS może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku lub innym zagrożeniem. Gwarancją MICHAEL KORS nie są objęte uszkodzenia w urządzeniu spowodowane używaniem baterii lub ładowarek niezatwierdzonych przez MICHAEL KORS.

OSTRZEŻENIE! Niektóre artykuły wyposażone są w baterie litowe, które mogą zawierać nadchloran i w związku z tym wymagać specjalnego traktowania. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE W TRAKCIE UŻYCIANIA URZĄDZEŃ MICHAEL KORS Z WYŚWIETLACZEM/ EKRADEM DOTYKOWYM.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WYŚWIETLACZA. Wyświetlacz Twojego urządzenia wykonany jest ze szkła lub akrylu i może pęknąć, jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub uderzy w coś ze znaczącą siłą. Nie używaj urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony, gdyż mogłoby to spowodować obrażenia ciała.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI: WŁAŚCIWE UŻYWANIE URZĄDZENIA Z EKRADEM DOTYKOWYM. Jeśli twoje urządzenie posiada ekran dotykowy, pamiętaj, że najlepiej reaguje on na lekkie dotknięcie opuszkami palca lub niemetalicznym ryśkiem. Zastosowanie nadmiernej siły lub metalowego przedmiotu w trakcie naciskania na ekran dotykowy może uszkodzić szklaną powierzchnię i spowodować utratę gwarancji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, proszę zapoznać się ze „standardową ograniczoną gwarancją”.

WAŻNE! Ekran dotykowy nie może mieć kontaktu z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyladowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie ekranu dotykowego.

UWAGA! Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie dotykaj go ostrymi elementami ani nie naciskaj go zbyt mocno palcami.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zapoznaj się z Deklaracją Zgodności lub wejdź na stronę <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

ÖNEMLİ SAĞLIK TEDBİRLERİ

Ürünü kullanırken riski tamamen size aittir. Attığınız adımlar, yakılan kalori, vüku kalitesi veya süresi, kalp atış hızı veya diğer bilgiler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmak üzere herhangi bir ürün ileşivinin veya hizmetin doğruluğu, güvenilirliği veya etkililiği hakkında herhangi bir temsilde, garantide veya taahhütte bulunmamaktayız. Ürün; tempo, adımlar, yakılan kalori, katedilen mesafe, kalp atış hızı ve vüku gibi makul bir tahmini bilgi sağlamak amaçladır. Ancak ürün, girmiş olduğunuz bilgiler doğruluğuna dayanır, mutlak mükemmeliyete sahip olmayan algoritmalar kullanır ve kontrolümüz dışındaki diğer faktörlere tabidir. Örneğin, kalp atış hızı ölçüm monitörü genellelik kullanıcının kalp atış hızının yaklaşık tahmini sağlabilise de cihazın vücuca uyuğunluğu, kullanıcıların fizyolojisi, faaliyetin türü ve yoğunluğu gibi belirli durumlar altında bazı kalp atış hızı okumalarının hatalı olmasına yol açabilecektir, teknolojiyle ilgili diğer kısıtlamalar söz konusudur. Ürünün sağladığı bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti etmemekteyiz. Ürün, yakılan her bir kaloriyi veya atılan adım kusuraşuz olarak takip etmemekte, tempoyu, katedilen mesafeyi, kalp hızını veya vükuyu kusuraşuz olarak rapor etmemektedir.

Ürün, iherlen herhangi bir yazılım da dahil, bir medikal cihaz değildir ve yalnızca fitness amacıyla kullanılır. Bir hastalığın ya da diğer koşulların teşhis edilmesi, ya da bir hastalığın tedavisi edilmesi, teskin edilmesi ya da hastalıkların korunması için tasarlanmamıştır ya da bu amaçlarla kullanılmaz. Egzersizinde, uykunuzda ya da beslenmesinde bir değişiklik yapmadan önce yetkililerle sahip bir sağlık uzmanının tavsiyesini alın, aksini yapmakt ciddi sağlık sorunlarına ya da ölüme neden olabilir.

İMLANT YAPILMIS MEDİKAL CİHAZ KULLANAN KİŞİLER AŞAĞIDAKİLERE UYMALIDIR:

(Eğer mevcutsa) Bir kalp atış hızı ölçüm aracı kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Ürünü aşık konumdayken ürünü medikal cihazarımdan en az 20 santimetre uzakta tutmalıdır.

Ürünü asla göğüş oplerinde taşınmamalıdır.

Ölasi RF müdahalesini en aza indirmek için implant yapılmış cihazın karşı tarafında olan bileği kullanın.

Herhangi bir müdahale olduğunu fark ederseniz Ürünü takmayın.

Sản phẩm, bao gồm bất kỳ phần mềm trong sản phẩm nào, không phải là một thiết bị y tế và chỉ được dùng với mục đích thể dục. Sản phẩm không được thiết kế hay mong muốn được sử dụng vào việc chẩn đoán bệnh hoặc các điều kiện khác, hoặc vào việc chữa, làm thuyên giảm, điều trị hoặc phòng bệnh. Hãy luôn tìm kiếm lời khuyên từ nhà chuyên môn y tế đủ khả năng trước khi đưa ra bất kỳ thay đổi nào với việc tập thể dục, giấc ngủ hay dinh dưỡng của bạn, bởi việc thay đổi này có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc tử vong.

Việc co rút và ép sát vào đồng hồ kéo dài có thể gây kích thích da. Bạn có nhiều khả năng bị kích thích da khi sử dụng bất kỳ thiết bị đeo tay nào nếu bạn bị dị ứng hoặc có các nhạy cảm khác. Hãy đặc biệt chú ý tới việc giữ cho thiết bị sạch sẽ bởi sự tiếp xúc giữa nó với da và bụi bẩn cũng có thể gây ra kích thích da.

NHỮNG NGƯỜI CÓ THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC CẤY DƯỚI DA NÊN:

(Nếu có) Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng máy theo dõi nhịp tim.

Giữ Sản phẩm cách xa thiết bị y tế hơn 20cm khi Sản phẩm được bật lên.

Không đeo Sản phẩm nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự gây nhiễu nào.

Không bao giờ để Sản phẩm trong túi áo ngực.

Hãy sử dụng cố tay đổi điện với thiết bị y tế được cấy để giảm thiểu nguy cơ gây nhiễu tần số cao.

KHUYẾN CÁO PIN

VỚI NHỮNG THIẾT BỊ SỬ DỤNG PIN ĐỒNG XU

Không nuốt pin - Bồng Hóa chất

Sản phẩm này chứa một quả pin đồng xu / cúc áo. Nếu bạn nuốt quả pin đồng xu / cúc áo này, nó sẽ gây ra bỏng nghiêm trọng trong cơ thể trong vòng 2 giờ và có thể dẫn tới tử vong.

Hãy giữ pin mới và pin đã sử dụng xa khỏi trẻ em.

Nếu bạn nuốt pin không đồng chất, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và giữ nó xa khỏi trẻ em.

Nếu bạn cho rằng mình đã nuốt pin hoặc cho pin vào bên trong bất kỳ phần nào của cơ thể, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

VỚI NHỮNG SẢN PHẨM DÙNG PIN CÓ THỂ SẠC LẠI

Để sạc được thiết kế cho việc sử dụng theo kiểu nằm ngang. Tránh đặt sạc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời. Để tuần thủ các hướng dẫn khi tiếp xúc với tần số cao và tránh gây nhiễu cho các thiết bị y tế, hãy duy trì khoảng cách ít nhất 15cm cách xa để sạc.

CẢNH BÁO! Việc sử dụng pin hoặc sạc không được chứng nhận có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn, cháy nổ, rò rỉ hoặc các mối nguy hại khác.

CẢNH BÁO! Những bộ phận được lắp cùng pin Lithi có thể chứa chất liệu pechlorat - có thể phải xử lý đặc biệt. Hãy truy cập trang www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate để biết thêm thông tin.

Không có tay pin của Sản phẩm. Pin được gắn liền và không thể thay được. Chỉ những trung tâm dịch vụ được Tập đoàn Fossil ủy quyền chính thức mới nên xử lý pin.

Pin (và tất cả thiết bị điện tử) phải được tái chế hoặc xử lý tách rời rác thải sinh hoạt.

Không vứt pin của Sản phẩm vào lửa. Pin có thể nổ.

HÃY LƯU Ý NHỮNG ĐIỀU DƯỚI ĐÂY KHI SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ MÀN HÌNH HIỂN THỊ/CẢM ỨNG

CẢNH BÁO VỀ MẮT ĐỒNG HỒ Mặt trên thiết bị của bạn được làm bằng thủy tinh hoặc acrylic và có thể vỡ nếu thiết bị của bạn rơi hoặc nếu nó tác động lớn. Không sử dụng nếu màn hình bị vỡ hoặc nứt bởi điều này có thể gây thương tích cho bạn.

TỬ CHỐI BẢO HÀNH: SỬ DỤNG NHỮNG THIẾT BỊ CÓ MÀN HÌNH CẢM ỨNG ĐÚNG CÁCH. Nếu thiết bị của bạn có mặt là màn hình cảm ứng, hãy lưu ý rằng màn hình cảm ứng hồi đáp tốt nhất khi chạm nhẹ ngón tay hoặc bút cảm ứng phi kim. Ấn vào màn hình cảm ứng với một lực quá lớn hoặc sử dụng vật kim loại có thể làm hỏng bề mặt kính cường lực và vô hiệu hóa bảo hành. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần “Bảo hành Có Giới hạn Tiêu chuẩn.”

QUAN TRỌNG! Không để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Phóng tĩnh điện có thể khiến màn hình cảm ứng trục trặc.

Các dấu hiệu về thông tin, chứng nhận và tuân thủ pháp quy cụ thể của sản phẩm có thể được tìm thấy trên sản phẩm này. Đi tới phần Cài đặt > Hệ thống> Thông tin> Thông tin Pháp quy. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thông báo Pháp quy hoặc truy cập <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

VAI TRÒ CỦA NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG, CẢNH BÁO VÀ NHỮNG LƯU Ý

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian.

VAI TRÒ CỦA NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG, CẢNH BÁO VÀ NHỮNG LƯU Ý

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ những lưu ý quan trọng, cảnh báo và những lưu ý để đảm bảo bạn hiểu rõ về những hạn chế và rủi ro của sản phẩm của chúng tôi. Những lưu ý này có thể thay đổi theo thời gian.

LIỆM MẮT VÀ CÁC HẠN CHẾ KHÁC

LIỆM MẮT VÀ CÁC HẠN CHẾ KHÁC (Nếu применимо) Проконсультироваться со своим врачом перед использованием монитора пульса.

Đержать включенное Изделие более чем в 20 сантиметрах от медицинского устройства.

Не надевать Изделие, если замечено любое нарушение работы медицинского устройства.

Никогда не носить Изделие в нагрудном кармане.

Использовать запястье, которое находится напротив имплантированного медицинского устройства, для сведения к минимуму потенциальных радиочастотных помех.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕИ

ИЗДЕЛИЯ С АККУМУЛЯТОРАМИ

Зарядное устройство предназначено для настольного использования. Для выполнения руководящих указаний относительно радиочастотных воздействий и предотвращения вмешательства в работу имплантированных медицинских устройств находитесь не ближе 15 сантиметров (примерно 6 дюймов) от зарядного устройства.

ОСТОРОЖНО! Использование неодобренной батареи или зарядного устройства может вызвать опасность пожара, взрыва, утечки или другие опасности.

ОСТОРОЖНО! Некоторые Изделия оснащены литиевыми батареями, которые могут содержать перхлораты. К таким изделиям могут применяться особые правила обращения. См. www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate для получения дополнительной информации.

Не пытайтесь заменить батарею Изделия. Она является встроеной, и ее невозможно заменить. Обслуживание батарей должны выполнять только уполномоченные сервисные центры Fossil Group.

После истечения срока службы батареи (и всего электронного оборудования) ее следует отправить на переработку или утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Не утилизируйте свое Изделие в огне. Батарея может взорваться.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВ С ДИСПЛЕЕМ/СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДИСПЛЕЯ:

Дисплей вашего устройства изготовлен из стекла или акрила и может разбиться при падении устройства или сильном ударе по нему. Не используйте устройство, если его экран разбит или треснул, поскольку так вы можете причинить себе травму.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА УСТРОЙСТВА.

Если ваше устройство оснащено сенсорным дисплеем, обратите внимание, что он лучше всего реагирует на легкое прикосновение подушечкой пальца или немагнитическим стилусом. Использование чрезмерной силы или металлического объекта при нажатии на сенсорный экран может привести к повреждению поверхности закаленного стекла и аннулированию гарантии. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со «Стандартной ограниченной гарантией».

ВАЖНО! Не позволяйте сенсорному экрану контактировать с другими электрическими устройствами. Электростатические разряды могут привести к сбоям в работе сенсорного экрана.

НА ИЗДЕЛИИ НАНЕСЕНА ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ, СЕРТИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ. ПЕРЕЙДИТЕ В «НАСТРОЙКИ > O > ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ».

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Уведомлениями о нормативном регулировании или посетите сайт <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

REGULATORY AND SAFETY NOTICES

FCC STATEMENT (USA)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the FCC and Industry Canada radio frequency exposure limits. FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by manufacturer, may void the user's authority to use the device. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) (Canada)

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the interference-causing equipment standard entitled: "Digital Apparatus," ICES-003 of the Canadian Department of Communications.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions radio, comme établi dans la norme des appareils créant des interférences intitulée « Appareils numériques », ICES-003 du Département canadien des Communications.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Ce produit répond aux exigences des normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne devra pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.

EUROPE (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

EUROPE (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Hereby, Fossil Group, Inc., declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

EUROPA (CE KONFORMITÄTSSERKLÄRING)

Härmed erklærer Fossil Group Inc., at dette produkt er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante bestemmelser fra Direktiv 2014/53/EU. Hele teksten af konformitetserklæringen fra EU kan findes på følgende internetadresse: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

EUROPA (CE CONFORMITEITSERKLARING)

Fossil Group Inc. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van EU-Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>



EUROPA (CE-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE)

Härmed intygar Fossil Group, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EG. Den fullständiga texten gällande EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande adress: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

EUROPA (CE-SAMSVARSERKLÄRING)

Fossil, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

EUROPA (CE KONFORMITÄTSSERKLÄRUNG)

Fossil Group, Inc. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU Richtlinie 2014/53/EU einhält. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>.

EUROPE (DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE)

Fossil Group Inc. déclare par la présente que ce produit est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU. Vous trouverez le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE à l'adresse suivante : <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

EUROPA (DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE)

Con la presente, Fossil Group, Inc., dichiara che questo prodotto rispetta i requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

EUROPA (DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE)

O Fossil Group, Inc. declara pelo presente que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

EUROPA (Declaración de conformidad CE)

Por el presente, Fossil Group, Inc., declara que este producto cumple los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

EUROPA (DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE)

Niniejszym, Fossil Group, Inc. oświadczam, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

AVRUPA (CE UYGUNLUK DEKLARASYONU)

İş bu vesileyle, Fossil Group, Inc., bu ürünün temel gerekliliklere ve 2014/53/EU sayılı direktifin diğer ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk deklarasyonun tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunabilir: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

PROHLÁŠENÍ CE O SHODĚ (EVROPA)

EVROPA (PROHLÁŠENÍ CE O SHODĚ): Společnost Fossil Group, Inc. tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Uplněné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

TUYÊN BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN CE (CHÂU ÂU)

CHÂU ÂU (TUYÊN BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN CE)
Do vậy, Tập đoàn Fossil tuyên bố rằng sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu cốt yếu và các điều khoản liên quan khác của Chỉ thị 2014/53/EU. Toàn văn của Chứng nhận Hợp chuẩn EU có tại địa chỉ sau: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ CE (ЕВРОПА)

ЕВРОПА (ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ CE): Настоящая группа компаний Fossil Group, Inc. заявляет, что данное изделие соответствует обязательным требованиям и прочим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия нормам ЕС представлен в интернете по следующему адресу: <https://www.fossilgroup.com/compliance/regulatory-compliance/>

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION



[ENGLISH] Disposal and Recycling Information

The symbol indicates that this Product shall not be mixed with unsorted municipal waste when disposed of. There is a separate collection system for waste electrical and electronic equipment. Usually old electrical and electronic equipment can be returned free of charge. For further information please contact the competent municipal authorities or the shop where you purchased the Product. Correct disposal ensures that waste electrical and electronic equipment is recycled and reused appropriately. It helps avoid potential damage for the environment and human health and to preserve natural resources.

- Do not dispose of the Product with household waste.
- Batteries are not to be disposed of in municipal waste stream and require separate collection.
- Disposal of the packaging and your Product should be done in accordance with local regulations.

[DANSK] Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Dette symbol indikerer, at produktet ikke må blandes med usorteret kommunalt affald, når det bortskaffes. Der findes et separat indsamlingssystem for elektrisk affald og elektronisk udstyr. Sædvanligvis kan gammelt elektrisk og elektronisk udstyr returneres gratis. For yderligere oplysninger kontakt relevante kommunale myndigheder eller butikken, hvor du købte produktet. Korrekt bortskaffning sikrer, at elektrisk affald og elektronisk udstyr genbruges på passende vis. Dette hjælper med at modvirke potentielle skader på miljøet og menneskers sundhed og bevare naturressourcer.

- Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffald.
- Batterier må ikke bortskaffes via kommunal affaldsindsamling, og kræver separat indsamling.
- Bortskaffning af indpakning og dit produkt bør ske i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

[NEDERLANDS] Informatie over weggoien en recylen

Het symbool geeft aan dat dit product niet mag worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. Er is een apart inzamelsysteem voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Meestal kan oude elektrische en elektronische apparatuur kosteloos worden geretourneerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bevoegde gemeentelijke instanties of met de winkel waar u het product hebt gekocht. De juiste verwijdering zorgt ervoor dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled en op passende wijze wordt hergebruikt. Het systeem voor aparte inzameling voorkomt mogelijke schade aan het milieu en de volksgezondheid en beschermt de natuurlijke hulpbronnen.

- Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval.
- Batterijen verleen gescheiden inzameling en mogen niet worden weggegooid in de gemeentelijke afvalstroom.
- Verwerking van de verpakking en van het product moet worden gedaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

[SVENSKA] Information om avfallshantering och återvinning

Symbolen anger att produktén inte skall blandas med kommunalt avfall vid avyttrande. Det finns en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt avfall. Oftast kan gamla elektriska och elektroniska produkter lämnas in kostnadsfritt. Kontakta behöriga kommunala myndigheterna eller den butik där du köpte produkten för ytterligare information. Korrekt avyttring säkerställer att elektrisk och elektronisk utrustning återvinns och återanvänds på lämpligt sätt. Det hjälper till med att undvika potentiell skada för miljön och människors hälsa och för att bevara naturresurser.

- Avyttra inte produkten med hushållsavfallet.
- Batterier får inte avfallshandteras i kommunala avfall och kräver separat insamling.
- Avyttring av förpackningen och produkten bör göras i enlighet med lokala föreskrifter.

[NOSK] Informasjón om avhending og resirkulering

Symboliet indikerer at dette produktet ikke skal blandes med restaffall ved avhending. Det er et eget innsamlingsystem for elektrisk avfall og elektronisk utstyr. Vanligvis kan gammelt elektrisk og elektronisk utstyr returneres gratis. For ytterligere informasjon kontakt kommunale myndigheter eller butikken der du kjøpte produktet. Korrekt avhending sikrer at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr blir resirkulert og gjenbrukt på riktig måte. Det bidrar til å unngå mulig skade for miljøet og menneskers helse, samt bevare naturressurser.

- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.
- Batterier må ikke kastes i husholdningsavfall og krever separat innsamling.
- Avfallshåndtering av emballasjen og produkt bør gjøres i henhold til lokale bestemmelser.

[DEUTSCH] Informationen zu Entsorgung und Recycling

Dies Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht gemeinsam mit unsortierten Kommunalabfällen entsorgt werden darf. Es gibt ein separates Sammelsystem für elektrische und elektronische Abfälle. Alte elektrische und elektronische Geräte können üblicherweise kostenfrei zurückgegeben werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die zuständige Kommunalverwaltung oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Die ordnungsgemäße Entsorgung stellt sicher, dass elektrische und elektronische Geräte angemessen recycelt und wiederverwertet werden. Dies hilft dabei, potenzielle

Schädigungen der Umwelt und der menschlichen Gesundheit zu vermeiden und natürliche Ressourcen zu erhalten.

- Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll.
- Batterien dürfen nicht in den kommunalen Entsorgungskreislauf gelangen und erfordern separate Sammlung.
- Die Entsorgung der Verpackung und Ihres Produktes sollte gemäß örtlicher Richtlinien erfolgen.

[FRANÇAIS] Informations concernant l'élimination et le recyclage des déchets

Ce symbole indique que ce Produit ne doit pas être mélangé à d'autres déchets ménagers lors de son élimination. Il existe un système de récupération particulier pour l'élimination des appareils électriques et électroniques. Habituellement, les anciens appareils électriques et électroniques peuvent être restitués gratuitement. Pour plus d'informations nous vous invitons à contacter les instances municipales compétentes ou le magasin où vous avez acheté le Produit. Une procédure d'élimination adéquate garantit que les déchets électriques et électroniques seront recyclés et réutilisés correctement. Elle permet d'éviter de porter atteinte à l'environnement et à la santé humaine et aide à préserver les ressources naturelles.

- Ne jetez pas le produit avec des déchets ménagers.
- Les batteries ne doivent pas être jetées dans les caniveaux et nécessitent une collecte séparée.
- L'élimination de l'emballage et de votre Produit devra se faire selon les règlements locaux.

[ITALIANO] Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

Il simbolo indica che il presente Prodotto non potrà essere unito ad altri rifiuti domestici in fase di smaltimento. Esiste un sistema di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche. In genere le vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere restituite gratuitamente. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità competenti o il punto vendita dove è stato acquistato il Prodotto. Il corretto smaltimento assicura che le apparecchiature elettriche ed elettroniche siano riciclate e riutilizzate adeguatamente. Tale pratica aiuta ad evitare danni potenziali all'ambiente e alla salute dell'uomo e a preservare le risorse naturali.

- Non smaltire il prodotto assieme ai rifiuti domestici.
- Le pile non possono essere smaltite nel flusso dei rifiuti domestici, bensì richiedono una raccolta differenziata.
- Lo smaltimento della confezione del Prodotto deve avvenire nel rispetto delle normative locali.

[PORTUGUÉS] Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo indica que este Produto não deverá ser misturado com resíduos urbanos não triados quando o quiser descartar. Existe um sistema de recolha diferenciada para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Normalmente, os equipamentos elétricos e eletrónicos obsoletos podem ser devolvidos sem qualquer custo. Para mais informações, por favor, contacte as autoridades públicas municipais ou a loja onde comprou o Produto. O descarte correto garante que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos são devidamente reciclados e reutilizados. Ajuda a evitar potenciais danos para o ambiente e para a saúde pública, e a preservar os recursos naturais.

- Não descarte o Produto juntamente com os resíduos domésticos.
- As baterias não devem ser descartadas juntamente com a cadeia de resíduos urbanos e necessitam de recolha diferenciada.
- O descarte da embalagem e do seu Produto deve ser feito de acordo com os regulamentos locais.

[ESPAÑOL] Información sobre reciclaje y eliminación

El símbolo indica que cuando deseché este Producto, no debe mezclarlo con residuos municipales sin clasificar. Existe un sistema de recogida independiente de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Normalmente, los aparatos eléctricos y electrónicos antiguos pueden ser devueltos de forma gratuita. Para más información, consulte con las autoridades municipales competentes o con el establecimiento donde adquirió el Producto. Desechar los aparatos eléctricos y electrónicos de forma correcta garantiza un reciclaje y una reutilización adecuados. Esto ayuda a evitar posibles daños en el medio ambiente y en la salud de las personas y preserva los recursos naturales.

- No mezcle el Producto con los residuos domésticos cuando lo deseché.
- Las baterías no deben mezclarse con los residuos municipales y deben depositarse en contenedores apropiados para tal fin.
- Debe desechar el envase y su Producto conforme a la normativa local.

[POLSKI] Informacje na temat utylizacji i recyklingu

Symbol wskazuje, że zużyty produkt nie powinien być wyrzucany razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Istnieje oddzielny system zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zazwyczaj stary sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie zwrócić. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z właściwymi władzami miejskimi lub z pracownikami sklepu, w którym produkt został zakupiony. Prawidłowe usunięcie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozwala na jego odpowiednie przetworzenie i ponowne wykorzystanie. To pomaga uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz uchronić zasoby naturalne.

- Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami domowymi.
- Baterie nie powinny być usuwane razem z odpadami komunalnymi; wymagają oddzielnej zbiórki.
- Usunięcie opakowania i zużytego Produktu powinno odbyć się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

[TÜRKÇE] İmha ve Geri Dönüşüm Bilgisi

Sembol bu Ürünün uzaklaştırırken tasnif edilmemiş şehir atıklarıyla karıştırılmaması gerektiğini ifade eder. Elektrik ve elektronik atıklar için ayrı bir toplama sistemi mevcuttur. Çöğünluka eski elektrik ve elektronik araç gereçler ücretsiz olarak geri dönuştürülür. Daha bilgi için lütfen yetkili belediyeye göreövrilerine ya da Ürünü satın aldığınız mağazaya ulaşın. Doğru uzaklaştırma atk elektrik ve elektronik araç gereçlerin geri dönuştürüldüğünü ve doğru bir şekilde tekrar kullandığını garanti eder. Çevre için olası zararların önlenmesine ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.

- Ürünü evsel atıklarla beraber atmayın.
- Bataryalar kent atıklarına atılmamalıdır ve ayrı olarak toplanmaları gerekir.
- Ürünün ve paketinin bertarafının yerel yasal düzenlemeler uyarınca yapılması zorunludur.

[ČESKY] INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován s netříděným komunálním odpadem. Pro likvidaci nepoužívaných elektrických a elektronických zařízení existuje samostatný systém sběru. Stará elektrická a elektronická zařízení lze obvykle bezplatně vrátit. Další informace získáte u příslušných obecních úřadů nebo v prodejně, kde jste produkt zakoupili. Správná likvidace je zárukou, že nepoužívaná elektrická a elektronická zařízení budou recyklována a vhodně znovu použita. Pomáhá předcházet možným škodám na životním prostředí a lidském zdraví a zachovávat přírodní zdroje.

- Nelikvidujte výrobek s běžným domácím odpadem.
- Baterie nesmí být likvidovány s běžným komunálním odpadem, je třeba je shromažďovat odděleně.
- Likvidace obalu a výrobku by měla probíhat v souladu s místními předpisy.

[TIẾNG VIỆT] THÔNG TIN XỬ LÝ VÀ TÀI CHẾ RÁC THẢI

Biểu tượng chỉ ra rằng Sản phẩm này sẽ không được trộn lẫn với rác thải đồ thị không được phân loại khi được xử lý. Có một hệ thống thu gom riêng biệt dành cho thiết bị điện và điện tử phế thải. Thông thường thiết bị điện và điện tử cũ có thể được trả lại miễn phí. Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc với cơ quan đó thị có thẩm quyền hoặc cửa hàng nơi bạn mua Sản phẩm. Việc xử lý đúng cách đảm bảo rằng thiết bị điện và điện tử phế thải được tái chế và tái sử dụng một cách thích hợp. Việc này giúp tránh được mối nguy hại đối với môi trường và sức khỏe con người và nhằm mục đích bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Không xử lý Sản phẩm phế thải cùng rác thải sinh hoạt.
- Pin phế thải không được xử lý cùng rác thải đồ thị và cần thu gom riêng.
- Việc xử lý phế thải bao bì và Sản phẩm của bạn nên tuân theo quy định của địa phương.

[РУССКИЙ] ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ

Этот символ указывает на то, что данное изделие при утилизации не должно попадать в несортированные бытовые отходы. Для использованного электрического и электронного оборудования существует отдельная система сбора мусора. Как правило, старое электрическое и электронное оборудование может быть бесплатно сдано на утилизацию. За более подробной информацией можно обратиться в компетентные муниципальные органы или в магазин, где вы приобрели изделие. Правильная утилизация обеспечивает надлежащую переработку и повторное использование электрического и электронного оборудования. Она позволяет избежать возможного ущерба окружающей среде и здоровью людей, а также сохранить природные ресурсы.

- Не выбрасывайте изделие в бытовые отходы.
- Батареи не следует выбрасывать в коммунально-бытовые отходы, поскольку для них требуется отдельная система сбора.
- Утилизация упаковки и самого изделия должна осуществляться в соответствии с местными нормативными требованиями.

MEXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su propia operación no deseada.

BRAZIL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

THAILAND

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

KOREA

해당무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과관련된 서비스는 할 수 없습니다

통화 시 단말기를 입에 대고 통화하게 되면 하울링 현상 등으로 정확한 통화가 이뤄지지 않으므로 한 뼘 정도(10~15cm) 이격을 두고 사용하세요.

TAIWAN

警語

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用過度恐傷害視力。

使用30分鐘請休息10分鐘。

未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

台灣



廢電池請回收

設備名稱：智慧型手錶；型號(型式)：						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
面板	○	○	○	○	○	○
錶殼	○	○	○	○	○	○
錶帶	○	○	○	○	○	○
充電器	—	○	○	○	○	○

備考1.* 超出0.1wt% 及* 超出0.01wt% 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2.* ○* 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3.* — 係指該項限用物質為排除項目。

AUSTRALIA/NEW ZEALAND



SINGAPORE

Complies with
IMDA Standards
DA105446

MALAYSIA



RUSSIA



CHINA



部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬化合物	多溴联苯	多溴二苯醚
外壳及内部部件	X	O	O	O	O	O
带	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

